

خوابوں کی تعبیر

iqbalkalmati.blogspot.com

خوابوں کی تعبیر جانئے

مزید کتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

سچے خواب سے متعلق

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: قرب قیامت میں مؤمن کا خواب جھوٹا نہ ہو گا اور اسی کا خواب سچا ہو گا جو گفتار میں (بھی) سچا ہو گا اور مؤمن کا خواب نبوت کا چھیا لیسواں حصہ ہے۔
(سنن ابن ماجہ رقم 3917)

قال شعيب: حديث صحيح (سنن ابن ماجہ 3917 دارالرسالۃ)

قال الالبانی: صحيح (سنن ابن ماجہ 3917 بیت الأفكار الدولیۃ)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب قیامت قریب ہوگی تو مؤمن کا خواب جھوٹا نہیں ہو گا اور ان میں سب سے سچا خواب اس کا ہو گا جو باتوں میں سب سے سچا ہو گا۔ (سنن دارمی رقم 2181)

قال الدارانی: حديث صحيح (سنن دارمی 2190 دارالمغنی)

پیش لفظ

خواب ایک طرح کا اشارہ ہے آنے والے حالات کے متعلق تاکہ انسان اس کے مطابق اپنے آپ کو تیار کرے۔ اور اپنے وقت سے باخبر ہو جائے اگر آنے والا وقت دکھ مصیبت، رنج و الم اور غم و فکر کا ہے تو اس کے لیے کوئی تدبیر کرنے یا چھلکا کوئی راستہ اختیار کرے۔^۹

ہر انسان کے خواب کی تعبیر ایک جیسی نہیں ہوتی، کسی کے خواب کی تعبیر جوں کی توں ہوتی ہے یعنی اس نے خواب میں جو کچھ دیکھا وہ حقیقت میں اس کے سامنے آتا ہے۔ کچھ کے خواب کی تعبیر الٹی ہوتی ہے، یعنی جو بھی اس نے دیکھا وہ نہیں بلکہ اس کا الٹا ہوتا ہے۔ کسی کو تعبیر اسی دن مل جاتی ہے کسی کو چند دن میں یا پھر کسی تعبیر کے لیے کئی ماہ یا کئی سال یعنی ایک طویل عرصہ لگ جاتا ہے۔ کچھ خواب بے نکلے، مصروفیات کے بنا پر یا ماحول یا پھر غذا کی گرانی سے بھی نظر آتے ہیں ایسے خواب کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔

عموما صبح کے آخری وقت یعنی اذان سے پہلے یا اذان کی آواز آنے تک خواب اگر نظر آتے ہیں تو وہ لوگوں کی نظر میں صحیح ہوتے ہیں۔ لیکن یہ بھی حرف آخر نہیں ہے۔ انسان کو اپنے خواب کی تعبیر کے لئے خود تجزیہ کرنا چاہئے کہ جو خواب مجھے نظر آتے ہیں اس کی تعبیر کیسی ہوتی ہے یعنی حقیقت، الٹ، اپنا، یا غیر کے لئے ہوتا ہے اور اس کی تعبیر میں کتنا وقت لگتا ہے۔ کبھی کبھی حقیقت میں تعبیر بہت جلد یعنی دن ہوتے ہی سامنے آ جاتی ہے اور کبھی وقت لگ جاتا ہے۔

ہمیشہ خواب کسی سمجھدار، عالم، باشعور، سمجیدہ پڑھے لکھے اور غور طلب آدمی کو بتا کر اس کی تعبیر معلوم کرنی چاہیے۔ کسی جاہل، بے عقل یا بید توفیق سے خواب کا ذکر کر کے تعبیر نہیں معلوم کرنی چاہیے کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کم عقل ناقص معلومات کے بنا پر اگر تعبیر قلمبند ہوتی ہے تو اس کا اثر واقعی قلمبند ہو جاتا ہے۔

اللہ ہر انسان کو دکھ، مصیبت، آفات و مصیبت اور اذیت و کرب سے محفوظ رکھے اور اپنے رحیم و کریم سے نوازتا رہے۔ عزت و مرتبہ میں بلندی عطا فرمائے۔ خوش و خرم رکھے اور دوسروں کی محتاجی سے چھائے۔ آمین

مزید کتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

خواب الف تعبیر

اللہ اکبر کہنا	بورگد تر ہو، خوش نصیب ہو، مرتبہ بلند ہو جائے
آباد جگہ دیکھنا	خوشی میسر ہو حالات سازگار ہوں
آباد مکان گرتے دیکھنا	پریشانی لاحق ہو مصیبت آئے
آتش دھواں دیکھنا	پریشانی کا اشارہ
آتش و شعلہ بھوکے دیکھنا	فتنہ و فساد ہو
آباد دیکھنا	مال طے ذریعہ معاش میں ترقی ہو
آدمی موٹا دیکھنا	امیر ہو مال و متاع ہاتھ لگے
آدم لاغر دیکھنا	حالات میں مشکل آئے
آرہ سے کسی کو کاٹنا	پریشانی جائے خوشی آئے
آرہ خریدنا	خوشی دیکھے
آزاد ہوتے دیکھنا	مشکلات سے نجات، گناہوں سے توبہ کرے
آسمان سفید دیکھنا	مشکلاں ہو، دنیا میں دہلا خرابی پھیلے
آسمان سرخ دیکھنا	خون خرابا ہو، خونریزی ہو

آسمان سیاہ دیکھنا	قحط ہو، پریشانی بڑھ جائے
آسمان سے مینہ برسنا	خوش ہو، ترقی ہو، مال میں فراوانی ہو
آسمان روشن دیکھنا	باعث ترقی، نیکی و سعادت مندی
آسمان پر لکنا	ذریعہ معاش میں ترقی
آسمان میں اڑتے دیکھنا	مرتبہ بلند ہو، خوشی آئے
آسمان سے گرنا	مصیبت آئے، پریشانی میں گمراہی
آسمان کے قریب جانا	عزت میں اضافہ، شان میں اضافہ
آگ روشن دیکھنا	بھڑی ہو، ترقی ہو، خوشی ہو
آگ میں چلنا	نیکی کا راستہ اپنانے
آگ بجھتے دیکھنا	فتنہ و فساد پر پاہو
آگ اٹھانا	حرام کمائی ہاتھ آئے
آگ میں کپڑا جلنا	کسی چیز کے لیے سرگرداں ہو
آب جاری دیکھنا	کام ظہیر وہ خوبی انجام پائے
آب شور دیکھنا	فکر لاحق ہو
آب مصفا دیکھنا	موت بے طے خوش ہو، مال بے
آب مکدر دیکھنا	رنج و غم، عورت بد اخلاق بے

آفتاب روشن دیکھنا	ترقی و خوشحالی دیکھے
آفتاب ابر الود دیکھنا	غم و پریشانی ہو
آفتاب طلوع ہونا	خوشی ملنے کی نشانی
آفتاب غروب ہونا	تنگدستی اور پریشانی ہو
آفتاب بے روشن دیکھنا	بے راہ روی اختیار کرے
آلوسرخ دیکھنا	مال آئے خوشی آئے
آلوزرد دیکھنا	بھاری آئے
آلوسیاد دیکھنا	حالات میں فرق آئے
آم دیکھنا	خوشی حاصل ہو، فرزند پیدا ہو
آم کھانا	پریشانی دور ہو
آم درخت پر دیکھنا	مال و دولت ہاتھ آئے، خوشی ملے
آم گرتے دیکھنا	پریشانی کی دلیل
آم کسی کو دینا	فیض حاصل ہو
آنسو بہتے دیکھنا	غم و پریشانی دور ہو
آنسو گرم بہتے دیکھنا	فکر و غم میں مبتلا ہو
آنکھیں روشن دیکھنا	نیک آدمی سے مدد ملے

آئیں اندھی دیکھنا	مال ضائع ہو غم لاحق ہو
آئیکہ ایک اندھی ہو	آدمی مال ضائع ہو
آئیکہ میں سرمہ لگانا	بیکوں میں شمار ہو
آئیں جسم پر دیکھنا	ترقی ہو، نیک کام کرے
آئیکہ نکلنے دیکھنا	دکھ میں اضافہ ہو
آئیکہ اپنی ہتھیلی پر رکھنا	تکلیف کے بعد جلدی سے راحت ملے
آواز خوش سننا	راحت ملے
آواز کرخت سننا	گناہ میں اضافہ ہو، رنج آئے
آہو کا شکار کرنا	عیش و عشرت دیکھے، نیک عورت ملے
آہو (ہزن) دیکھنا	مالدار ہو، خوش نصیب ہو
آہو کو مارنا	عورت کی ہلاکت اور ویرانی
آہو کا گوشت دیکھنا	عورت سے مال ملے، لولہ پیدا ہو
آہو پکڑنا	مالدار ہو، کسی سے فائدہ پہنچے
آندھی دیکھنا	باعث پریشانی
آندھی میں خود گھرنا	رنج و غم میں مبتلا ہو
آندھی سرخ دیکھنا	فائدہ و فساد اٹھے

آندھی سیاہ دیکھنا	ہر طرف گھمبیر رنج و غم اور فتنہ فساد
آئینہ دیکھنا	غم و فکر دور ہو دلی مراد آئے
آئینہ میں اپنی صورت دیکھنا	فرزند ہو، حصول عزت
اہر سیاہ دیکھنا	رنج آئے، فکر لاحق ہو
اہر گر جتا دیکھنا	باعث پریشانی توبہ کرے
اہر اڑتا دیکھنا	علم میں ترقی، نیکی کی دلیل
اخروٹ دیکھنا	ترقی معاشی ہو
اخروٹ کا درخت دیکھنا	راحت و آرام ملے
اہیل دیکھنا	باعث ترقی
اہیل ہاتھ سے اڑنا	عورت سے ہدائی، فکر اٹھائے
اہیل ہاتھ میں مرنا	کسی عزیز کی موت ہو
اہیل پکڑنا	غم پریشانی سے چھٹکارہ ملے خوشی آئے
اذان سننا	نمازی ہو، خوشی حاصل ہو
اذان دینا	عزت و مرتبہ بلند ہو
اذان بے وقت دینا	خلقت کو نقصان پہنچائے
اذان قید میں دینا	مصیبت سے آزادی ملے

محببت دور ہو جائے، مرتبہ بلند ہو	اذان پہلا پر دینا
نفع کثیر ہو، فرزند پیدا ہو، خوشی آئے	اشرفی دیکھنا
علم حاصل کرے	اہر دیکھنے دیکھنا
حسین و جمیل عورت ملے	اہر و خمدار دیکھنا
پریشانی اٹھائے	اہر و گرتے دیکھنا
دولت میں کمی ہو رگی ملے	اہر و سفید دیکھنا
بذریعہ علم دولت آئے	اخبار پڑھنا
امیروں میں شامل ہو	اژدھا دیکھنا
باعث پریشانی، دشمن سے لڑائی	اژدھا سے لڑنا
فتح پائے، دولت ہاتھ لگے	اژدھا کوزیر کرنا
دشمن کوزیر کرنا	اژدھا پر بیٹھنا
رنج و فکر آئے	الود دیکھنا
عزت و مرتبہ ملے	امام ہونا
خوشی دیکھے	امرد شیریں کھانا
پریشانی و غم سے واسطہ پڑے	امرد ترش کھانا
مال ملنے کی دلیل	انار کھانا

انارزش کھانا	باعث پریشانی
انجیر کھانا	بے فائدہ کام ہو
اندھا اپنے آپ کو دیکھنا	رنج و پریشانی دیکھے
اندھیرا دیکھنا	دین سے گمراہ ہو، فکر ہو
اندھیرے میں روشنی دیکھنا	نیک ہدایت کی دلیل، خوشی آئے
انڈا دیکھنا	نیک عورت ملے، خوشی ملے
انگوٹھی دیکھنا	خوشی ملے، دولت ملے
انگوٹھی پہننا	مرتبہ بلند ملے، جلد خوشی ملے
انگور سفید کھانا	ہر طرف سے فائدہ پہنچے
انگور سیاہ کھانا	فکر لاحق ہو، مصیبت آئے
انگور کی بیل دیکھنا	آرام و فرحت پائے
لوہے پر چڑھنا	بلند مرتبہ ہو، ترقی کرے
اونٹ پر سوار ہونا	تجارت سے فائدہ، مال ملے
اونٹ خریدنا	عورت ملے، مال کثیر ہاتھ آئے
اونٹ کا گوشت کھانا	بورگی ملے، پاکیزہ طریقے سے مال ملے
لوہے کا پانی پینا	خوشحالی ملے

لو لے رہتے دیکھنا	فکر مندی ہو، باعث ہماری ہے
ایٹھ دیکھنا	مال ہاتھ آئے
ایٹھ توڑنا	مال ضائع ہو، پریشانی اٹھائے
انسان کا گوشت کھانا	حرام طریقے سے مال آئے

ب

بسم اللہ پڑھنا	نیکی کی دلیل، کام بن جائے، بوائی کی دلیل
بادشاہ دیکھنا	دولت ملے، مرتبہ بلند ہو
بادشاہ سے بات کرنا	آرام ملے، خوشی ملے
بادام دیکھنا	کھویا ہوا مال ملے ہماری سے صحت پائے
باز سفید دیکھنا	عزت و مرتبہ ملے، حالات بہتر ہوں
باز پکڑنا	خوشی ملے، پریشانی سے نجات
بہت دیکھنا	دین سے دوزی، بد لوگوں کا ساتھ ہو
بہت گھر میں دیکھنا	توبہ کرے، پریشانی دیکھے
جھلی کرنا	اس جگہ عذاب آئے، باعث پریشانی
بھو دیکھنا	دشمن پیدا ہو

دشمن وار کرے	بھوکا نچے دیکھنا
دشمن پر غالب آئے	بھومارنا
مال و دولت ہاتھ آئے	باغ سے پھل توڑنا
فکر و پریشانی سے نجات پائے	بال سر کے کٹے دیکھنا
فکر روزگار	بال سر کے نچے دیکھنا
خوشی ملے، نفع حاصل ہو	بالوں میں کنگھی کرنا
مرتبہ بلند ہو، عزت پائے	بال سفید دیکھنا
راحت آرام اور خوشی ملے	برف کھانا
خوشی ملے، مالدار عورت ملے	بستر سفید دیکھنا
عزت حاصل ہو	بستر پر بیٹھنا
حسین اور مالدار عورت ملے	بلیغ سفید دیکھنا
اچھی عورت ملے، آرام پائے	بلیغ سیاہ دیکھنا
عورت سے خوشی ملے	بلیغ حلال کرنا
خوبصورت اولاد ہو	بہیل دیکھنا
ہردلعزیز ہو جائے	بہیل پکڑنا
رزق میں برکت ہو	بجری دیکھنا

خوش نصیب ہو، مال ملے	بھری کا گوشت کھانا
خوشی میں کمی ہو	بھری مردہ دیکھنا
مال ملے، اچھی عورت ملے	نگلا دیکھنا
تکلیف سے نجات پائے	بلی کو مارنا
مصیبت میں گرفتار ہو	بلی کالی دیکھنا
بیماری یا مصیبت میں گرفتار ہونا	بلی حملہ آور دیکھنا
دشمن دیکھے	بندر دیکھنا
مصیبت آئے	بندر حملہ کرے
مصیبت دور ہو	بندر کو مارنا
کوئی صاحب خانہ کو پریشان کرے	بندر گھر میں داخل ہو
حالات اچھے ہوں	بچا د مکان کی دیکھنا
دین سے داری، توبہ کرے	بال زبان پر دیکھنا
پریشانی اور غم کی نشانی ہے	بال ناک پر دیکھنا
حالات میں بھری ہو رہی ہے	بال کالے و سفید دیکھنا
حالات میں تنگی ہو، مرتبہ گھٹے	بالے سے نیچے اترنا
مقروض ہونا	بال ہتھیلی پر دیکھنا

بہشت دیکھنا	مرتبہ کی بلندی اور عزت پائے
بہشت میں داخل ہونا	دچار ہو، عزت میں اضافہ
بہشت کا پھل کھانا	نیک فرزند ہو، دنیا میں عزت پائے
میل موٹا دیکھنا	مال ملے، رزق میں اضافہ ہو
میل دبلا دیکھنا	رزق تنگ ہو، تکلیف دیکھے
بھیڑ یاد دیکھنا	دشمن سے نقصان اٹھائے
بوسہ لینا	دوست سے فائدہ ہو
بوسہ عورت کا لینا	کثیر مال ہاتھ آئے، روزگار ملے
بیمار دیکھنا	حالات اچھے ہوں
بہرہ خود کو دیکھنا	حالات میں تنگی ہو، بد خبری
بھنا ہوا گوشت دیکھنا	خوشی دیکھے، مال ملے
بھنا گوشت کھانا	حالات میں بہتری آئے، آرام ملے
بھوک لگنا	مال ہاتھ لگنے کی بھارت
بھوت دیکھنا	مصیبت آئے
بھوت پر غالب دیکھنا	کامیابی ملے
بیچ ہونا	نیا کام کرے

خوشی ملے، آرام ملے	بہر دیکھنا
خوشحالی ہو، حالات اچھے ہوں	بھیڑ دیکھنا
مصیبت آئے، توبہ کرے	بھونچال دیکھنا
بزرگی ملے، حالات اچھے ہوں	بھیڑ بھری کا دودھ پینا
دشمن سے تکلیف پہنچے	بھیڑ یا حملہ آور دیکھنا
دشمن پر غالب آنا	بھیڑ بچے کو مارنا
عزیز دشمنی کرے	بھیڑ یا گھر میں دیکھنا
مصیبت آئے	کھمبے دیکھنا
فرہ تو دوست ملے، لاغر تو پریشانی ملے	بیل گھر میں دیکھنا
عزت و مرتبہ میں کمی آئے	بیل کا سینک مارنا
حالات سازگار ہوں	بیلنے سے روٹی لکھنے
پہلے پریشانی بعد میں مسرت	دہوش ہونا
سبز تو راحت ملے، خشک تو تنگدستی	باجرہ دیکھنا



خوشی ہو، شفا ہو، کامیابی ہو

پانی میں نہانا

پانی پینا	نیک لے، عمر زیادہ ہو
پانی گدلا پینا	پریشانی آئے
پانی دریا کا پینا	اسر یا حاکم سے فائدہ ہو
پاخانہ کرنا	حرام میں مال یا دولت خرچ ہو
پاخانہ میں گرنا	حرام مال لے، بے عزت ہو
پاجامہ دیکھنا	نکاح کرے یا نو کر رکھے
پاجامہ عورت پہنے	کنواری نکاح کرے، فرزند پیدا ہو
پاؤں کشادہ دیکھنا	مال ضائع ہو
پاؤں ٹوٹے دیکھنا	مصیبت پریشانی اٹھائے
پاؤں میں جو تاپہننا	عورت لے نیک خصلت
پاؤں میں جو تانگ ہو	بد مزاج لوربہ کردار عورت لے
پتھر سفید دیکھنا	مال لے، مرتبہ بلند ہو
پتھر سیاہ دیکھنا	بزرگ ویر تر ہو
پتھر سرخ دیکھنا	کسی سے مال لے
پتھر سبز و نیلا دیکھنا	ہدایت پائے بزرگ ہو
پتھر زرد دیکھے	اچھے لوگوں میں شامل ہو

پرندوں کے پردیکھنا	کامیابی ملے، خوشی ملے
پرندوں کو گرنا دیکھنا	پریشانی و حیرانی آئے
پرانا کپڑا دیکھنا	رنج و غم آئے
پرانا کپڑا ناز دیکھنا	قرض سے نجات پائے
پرندہ روانے پردیکھنا	عقل پر پردہ پڑا ہے
پرندہ اڑتے دیکھنا	حالات میں بھری، غم سے نجات
پرندہ اٹارنا	دلی مزاج آئے
پستان عورت کا دیکھنا	لڑکی پیدا ہو، زندگی آرام میں گزرے
پستان اپنا دیکھنا	حسین عورت ملے، براحتی پائے
پستان بکٹا دیکھنا	موت ہو یا مال کا نقصان ہو
پستہ ملنا دیکھنا	مال و دولت ملے، خوشی نصیب ہو
پل دیکھنا	ترقی ہو، مال و زر حاصل ہو
پل بناتے دیکھنا	حالات بھری ہوں، راحت ملے
پل ٹوٹنا	حاکم وقت پر نصیبت آئے
پشت پر جو اٹھانا	مشقت جھیلنا
پشت اپنی مضبوط دیکھنا	غم دور ہو، کسی سے مدد ملے

عزت سے ہدائی ہو	پشت لونی دیکھنا
گناہوں سے بچے	ہل صراط دیکھنا
تیک راہ اختیار کرے	ہل صراط سے گزرتا
توبہ کرے، شرک میں مبتلا ہو،	ہل صراط سے گرنا
حسین عورت لے، دولت آئے	ٹالکس خوب صورت دیکھنا
رنج و غم اٹھانا	ٹالکس گرتی دیکھنا
پریشانی میں گرفتار ہو	بچرہ دیکھنا
پریشانی اور مصیبت دور ہو جائے	بچرہ ٹوہ دیکھنا
آرام دیکھے	پن بگی دیکھنا
مال و حرام لے	غیر کھانا
راحت پائے	پودینہ سبز دیکھنا
بے قرار ہو، پریشان ہو	پودینہ خشک دیکھنا
عدت و مشغلت سے مال ہاتھ آئے	پھاڑ کو کھودنا
بدنام ہو، حرام ہاتھ آئے	پیاز دیکھنا
حرام آئے توبہ کرے	پیاز کھانا
گناہوں میں پڑنا، توبہ کرنے	پلاس سے پانی پینا

خوشی حاصل ہو، نکاح کرے	پیارے خریدنا
بچوں سے جدائی ہو	پیارے لوثنا
کامیابی کی نشانی ہے	پھنگری کھانا
گناہوں سے دور رہے	بھوڑے کو صاف کرنا
نقصان اٹھائے	بھوڑے سے خون لگانا
فرزند ہو، دوست لے	پھول دیکھنا
فرزند پیدا ہو، آرام و راحت پائے	پھول گلاب کا دیکھنا
دکھ و تکلیف اٹھائے	پھول مرجھایا دیکھنا
عزت و مرتبہ بلند ہو	پیشانی کشادہ دیکھنا
عزت خراب ہو، ذلیل ہو	پیشانی تنگ دیکھنا
مقرض ہو	پیشانی پر بال دیکھنا
عزت پائے، افسردہ	پیشانی پر خون دیکھنا
خبر و حرکت ہو، عزت پائے	پیارے شرمٹ کا پینا
حرام مال لے یا کھائے	ہیٹ بوا دیکھنا
دین سے دوری اور دنیا سے پیار	ہیٹ پر بال دیکھنا
نیکی کی علامت	ہیٹ بوا دیکھنا

پہرے پانا یاد رکھنا	شکر سستی ہو
پیشاب کرنا	مال ہاتھ آئے
پیشاب خون کا کرنا	روزگار میں کمی آئے
پری دیکھنا	خوشی ملے، حصول علم و دولت آئے

ت

تالاب صاف دیکھنا	خوشی ملے
تالاب گندہ دیکھنا	رنج و غم میں مبتلا ہو
تالاب میں نہانا	صاف شفا پائے
تاریکی میں بھاگنا	ذلت اٹھائے
تخت دیکھنا	بلندی مرتبہ، عزت ملے
تخت پر بیٹھنا	دولت زیادہ پائے، مرتبہ بلند ہو جائے
تخت سے اترنا	تیزی آئے
تہ مت دیکھنا	دلی مراد پائے
تاج دیکھنا	مرد عزت اور عورت شوہر پائے
تاج سر پر دیکھنا	عزت و مرتبہ بلند ہو جائے

تاج ٹوٹنا	عزت گھٹ جائے
تاج گر جودیکنا	فہم و معیبت اٹھائے
ترازہ دیکنا	انصاف کا تقاضہ ہے
ترازہ ٹوٹا دیکنا	بے ایمان ہو، انصاف کا خون ہو
تیز دیکنا	ہل ہاتھ آئے
تیز دکھانا	خوشی ملے، دولت ملے
تصویر دیکنا	حرام مال کی کوشش
تصویر خریدنا	باعث معیبت ہے
تصویر ٹوٹنا	عورت سے جدائی ہو
تصویر بد صورت دیکنا	مشکل درپیش ہو
تصویر خوب صورت دیکنا	آرام پائے
تکوار دیکنا	لولہ پیدا ہو، مال آئے
تلاور زنگ آلود دیکنا	باعث پریشانی
تیر دیکنا	دلی مراد پائے
تیر نشانہ پر لگانا	معیبت سے چھٹکارہ حاصل ہو
توپ دیکنا	کامیابی ہو، دشمن پر غالب ہو

عزت پائے، ترقی ہو	توپ چلانا
زیادہ محنت، رعب و دبدبہ ہو	توپ کھینچنا
توپ کرے گناہ سے	تھوک تھوکننا
دین سے دوری ہو، گمراہ ہو	تھوکننا مسہر میں
حسین عورت ملے، خوشی ملے	تیز دیکھنا
دولت و راحت ملے، خوشی ملے	تیز پکڑنا
مال حلال ہاتھ آئے	تیز کا گوشت کھانا
عورت سے جدائی ہو	تیز اڑنا دیکھنا
مرتبہ بلند ہو	تیل خریدنا
بورگی حاصل ہو، نام پیدا ہو	تکیہ دیکھنا
مال ملے	تیرپانی میں دیکھنا
غم سے نجات ہو، خوشی ملے	تیم کرنا
افسر ہونے کی نشانی ہے	تیز دیکھنا
نعمت ملے، خوشحالی ہو	تیز گرم دیکھنا
آرام ملے، خوشحالی آئے	توت کادورخت دیکھنا
کام میں کمی اور نقصان ہو	ترش چیز کھانا

ختم کند مہلتا	کام میں بروکت ہو
ختم جوہتا	اچھی زندگی بسر کرنا
ختم باجر ہو تا	مصیبت میں گرفتار ہو
تا بنے کلہر تن دیکھنا	شادی ہو باعث آرام
تلہا گلے دیکھنا	خوشی ملے، غم سے نجات ہو
تال کھانا دیکھنا	آرام کی نشانی ہے
تاج چمکدار دیکھنا	صاحب عزت و مرتبہ ہو

ط

ٹوپی دیکھنا	باعث عزت ہے
ٹوپی پھٹی دیکھنا	بے عزت دے آلود ہوتا
ٹڈی دل دیکھنا	فوج یا سپاہی میں جائے
ٹڈی دل میں گمراہ دیکھنا	گمراہ ہو یا رنج اٹھائے
ٹٹا خریدے	خرچ زیادہ ہو
ٹٹا سے گنا	رنج و غم اٹھائے
ٹٹا پڑھنا	غم سے نجات ملے، خوشی حاصل ہو

بھلائی ملے	خوشی دیکھنا
دشمن پر غالب آئے	ٹھوکر مارنا
کاروبار میں نقصان ہو	بچہ ٹوٹنا
دولت پانے، نیکی ملے	ٹاٹ خریدنا
بیک عورت ملے	ٹاٹ بنانا دیکھنا
کاروبار میں ترقی ہو	ٹوٹ خریدنا
صحت و مشقت کرے	ٹماٹر سبز دیکھنا
حالات میں بہری و آرام	ٹماٹر سرخ دیکھنا
حالات میں بہری، پریشانی	ٹماٹر گلے سڑے دیکھنا

ش

بہر نہیں باعث پریشانی	ٹورمیل دیکھنا
حالات بہر ہوں	ٹمر چھلکا دیکھنا
خوش صورت اولاد پیدا ہو	ٹمر چھلکا کھانا
پریشانی آئے، اولاد پریشان کرے	ٹمر ترش کھانا
رنج و الم آئے	ٹمر کڑوا کھانا

کام میں ناکامی ہو	شیر خام دیکھنا
کاروبار میں تیزی ہو	شیر خام کھانا
مرتبہ بڑھ ہو، عزت بڑھے	شیر بیٹھا خریدنا
کاروبار میں ٹنگی ہو	شیر خراب ہونا
توبہ کرے، ذلیل ہو، خواری آئے	شیر خام درخت سے گرنا
حالات پر قابو پانا	ثور بیل پر چڑھنا
عزت و کار بڑھے	ثور بیل کو ملیج دیکھنا

ج

برکت ہو اللہ کی پاد میں لگے	جانماز دیکھنا
راہ مستقیم پر چلنے کی ترغیب دے	جانماز کسی کو دینا
مقتدر پورا ہو، ولی مراد آئے	جال دیکھنا
ترقی ہو	جال خریدنا
دنیاوی دولت حاصل ہو	جال سے ہلکا کرنا
پریشانی اٹھائے	جال پھلانا دیکھنا
حیرانی و پریشانی ہے	جانور گرد دیکھنا

جادو گر سے لڑنا	فساد بنائے، اخوت کی تعلیم دے
سج دیکھنا	اجھے آدمی سے قاتلہ ہو
سج خود کرتے دیکھنا	عزت و مرتبہ پائے، دو چہرہ ہو
جراب دیکھنا	مال و دولت طے
جسم نکال دیکھنا	رزق تنگی سے طے
جسم مونا دیکھنا	رزق میں فروانی آئے
جسم لاغر دیکھنا	شکستہ سنی ہو، بھاری آئے
جن دیکھنا	مکر و فریب کرے
جن سے لڑنا	مرتبہ بلند ہو، سرداری طے
جنم دیکھنا	توبہ کرے، محنت و مشقت اٹھائے
جنازہ دیکھنا	وقت سخت ہو، ظالم حکمران ہو
جنازہ اپنا دیکھنا	بورگی پائے، تنگی کرے
جو تک دیکھنا	لاہجی دشمن سے واسطہ
جو تک مارنا	دشمن پر غالب ہو، آرام پائے
جو نہیں دیکھنا	گھر میں خرابی ہو،
جو نہیں مارنا	نقصان اٹھائے بدنام ہو

صاحب علم ہو، خوشی آئے	جوہرات ملنا
بزرگوں کا ساتھ ہو	جوہری دیکھنا
نیک کام کرے	جماد کرنا
ترقی دین، خوشی میسر آئے	جماد کے لئے تیار ہونا
خوشی دیکھے، آرام پائے	جنگ کرنا دیکھنا
بزرگوں کا ساتھ ہو، دولت ملے	جنت دیکھنا
راحت و آرام ملے	جنگل ہراد دیکھنا
تنگی حالات، ملک میں بے چینی آئے	جنگل ویران دیکھنا
مرتبہ بلند ہو	جنگل میں شکار کرنا
غم سے نجات، آرام میسر ہو	جنگل میں میر کرنا
علم سکھائے، سعادت کرے	جوہرات فروخت کرنا
عورت ملے، شادی ہو	جوہر دیکھنا
حسین و جمیل عورت ملے	جوہر سفید دیکھنا
بد مزاج عورت ملے	جوہر سیاہ دیکھنا
میں پرست عورت ملے	جوہر سرخ دیکھنا
عورت سے ہدائی ہو باعث طلاق	جوہر پاؤں سے اترنا

جو تاپھا پھٹنا	پریشانی لاحق ہو، عورت بہ کردار ملے
جھاڑ دیکھنا	آرام و سکون ملے
جھاڑ دینا	نقصان ہو، پریشانی ہو
جھاڑ سندی دیکھنا	کاروبار میں ترقی ہو
جھاڑ تادیکھنا	خوش نصیب ہو، کامیابی ہو
جھگڑا کرنا	برے کام سے بچے
جھولا جھولنا	میش و آرام دیکھے
جھنڈا پکڑنا	مرتبہ بلند ہو، عزت ملے
جھنڈا سفید دیکھنا	ترقی ہو، عزت میں اضافہ ہو
جھنڈا سرخ دیکھنا	کامیابی و کامرانی ہو
جھنڈا سیاہ دیکھنا	قالب رہے، صحرا کی سیر کرے
جھنڈا سبز دیکھنا	دشواری سفر کرے
جھنڈا اگر تادیکھنا	حیرانی و پریشانی دیکھے
جیل دیکھنا	مصیبت اٹھائے بدنامی ہو
جلاد دیکھنا	پریشانی آئے، تنگی ہو
جلاد کو مار ڈالنا	غم سے نجات ملے، راحت ملے

پج

چاند روشن دیکھنا	دولت ملے، حسین عورت ملے
چاند بادل میں دیکھنا	نگلی وقت، بے چینی و نظاری
چاند گھر میں دیکھنا	فرزند پیدا ہو خوشیاں ملے
چاند گھر بن لگنا	نقصان ہو، فکر لاحق ہو
چاندنی دیکھنا	مال و دولت آئے
چاندنی دیکھنا	خوب صورت عورت ملے، خوشی دیکھے
چاندنی کا زور پھٹنا	خوشی ملے، تکلیف دور ہو
چاند لہنا	عورت ملے، دکھ دور ہو
چاند پھٹ جانا	پریشانی آئے، بے عزت ہو
چاند گرنا	نگلی آئے بدنامی ہو
چاند لوڑھنا	حالات میں بھڑی، شادی ہو
چاند غریب بنا	دوسروں پر غالب آئے، مال ملے
چاند لہنا	دشمن زہیم ہو
چاند کچے دیکھنا	حالات کھرا ہوں، کاروبار میں ترقی ہو

تکلیف آئے	چاول دہی کھانا
خوشی ملے	چاول دودھ کھانا
خوشی و شادمانی آئے	چاول پلاؤ کھانا
خوشی و کامرانی دیکھ	چائے پینا
صحت و سلامتی ملے	چوترو دیکھنا
بہت دکھ ملے، کسی کی موت واقع ہو	چوترو فلکت دیکھنا
شادی ہو، گھر میں آسودگی آئے	چٹائی خریدنا
فرزند ہو، حالات بہتر ہوں	چراغ روشن کرنا
رنج و غم آئے	چراغ گل کرنا
منگی پر ہر کار سے	چراغدان مٹی کا
رنج و غم ہو، منگی ہو	چراغ لوشنا
مرحہ بہتر ہو، حالات میں بہتری آئے	چرواہا دیکھنا
عزت میں اضافہ ہو، خوشی ہو	چریا دیکھنا
خیزی سے حالات اچھے ہوں	چریاں پکڑنا
حالات ٹھگ ہوں	چریا گونسلے سے لڑانا
اللہ کی رحمت سے	چریا کی آواز سننا

چشمہ لبتا دیکھنا	ترقی دین ہو، خوشیاں دیکھے
چشمہ کا پانی پینا	رزق میں فراوانی آئے
چشمہ کا پانی خراب ہو	رنج و غم میں مبتلا ہو
چکوردیکھنا	حسین عورت ملے، خوشحال ہو
چکور کا گوشت کھانا	باکرہ عورت ملے، عزت و مرتبہ ملے
چندر دیکھنا	رنج کے بعد خوشی ملے
ہکی چلتی دیکھنا	لوگوں میں مرتبہ بلند ہو
ہکی بکڑی دیکھنا	روزی کے لیے سرگرداں
چلتے چلتے اذان دینا	ترقی دین، رنج دور ہو
چیرہ تھپاں مارنا	رنج و غم سے نجات ملے
چوکھٹ دیکھنا	گھر میں خوشحالی آئے
چوکھٹ چومنا	عزت میں اضافہ ہو، خوشی ملے
چھپ دیکھنا	دلی مقصد بر آئے
چھوار تلنا	دراشت کا مال ملے
چھو آدمی کا دیکھنا	مال کی زیادتی ہو
چھو اونٹ کا دیکھنا	میش و آرام ملے

ہوا گائے کا دیکھنا	حالات میں بھری آئے
ہوا بھری کا دیکھنا	رزق میں فراوانی آئے
ہوا سرخ دیکھنا	ماں میں کمی آئے
ہوا سیاہ دیکھنا	رنج و غم میں اضافہ ہو
چتے دیکھنا	نکرا لاحق ہو
چنبیلی کا پودا دیکھنا	تکلیف ہو، بے قراری آئے
چنبیلی کا گلہ ست دیکھنا	مفارقت ملے
چوپایہ حلال کا گوشت کھانا	مال آئے، بھگدستی دور ہو
چوہا دیکھنا	رزق میں اضافہ ہو
چوہا لوٹنا	گھر کی پریشانی میں اضافہ
چوہا دیکھنا	لڑائی جھگڑے سے نجات، آرام پائے
چوہا گھر میں کرنا	عزت ملے، آرام و راحت آئے
چوہا دیکھنا	بہ کردار عورت سے واسطہ ہو
چوہا مارنا	فلا عورت سے دوری ہو
چیتا دیکھنا	پریشانی میں اضافہ ہو
چیتا مٹی ہو	دشمن زیر ہو، عزت ملے

عزت در مرتبہ بلند ہو جائے	پہنچا پر سوار ہونا
ترقی ہو، قدر و منزلت بڑھ جائے	بہمت پر چڑھنا
موت ہو، عزت و قدر ختم ہو	بہمت سے گرنے
حالات بگڑ ہوں، عزت بڑھے	پھتری خریدنا
کسی سے کوئی مدد ملے	پھتری سر پر دیکھنا
نیک اولاد ہو، حوصلہ مند ہو	پھری خریدنا
خوش ملے، سکون میں آئے	پھلی دیکھنا
ترقی ملے، مرتبہ بلند ہو	پھلی خریدنا
دلی خوشی ملے، دولت میں اضافہ ہو	چبے کا شکار کرنا
دنیاوی مال ہاتھ آئے	چیل دیکھنا
تکلیف میں اضافہ ہو	چیل مردہ دیکھنا
حالات میں بگڑی آئے	چیل کا شکار
غم دیکھے	چیل ہاتھ سے اڑنا
لوگ اس کے فرمانبردار ہوں	چیل بکرنے
تکلیف میں اضافہ، توبہ کرے	چیل کا حملہ آور ہونا

ح

خوشی ملے، رنج و غم دور ہو	حرم کعبہ دیکھا
عزت و مرجہ بلند ہو، دلی مراد آئے	حرم کعبہ کا طواف کرنا
اللہ کی رحمت سے	حج کرنا
ترقی دین ہو، دلی خوشی ملے	حجر اسود چومنا
نیک کام کرے، نئے کام کا شروع ہونا	حج کے لیے تیاری
مال میں اضافہ ہو، خوشیاں ملے	حلو دیکھنا
رزق میں اضافہ ہو	حلو اکھانا
کاروبار بڑھے، سخی ہو	حلو پاشنا
مصیبت سے بچکارہ ملے	حجامت ہونا
توبہ کرے، تکلیف آئے	حرام مال کھانا
ذلیل ہو، رسوا ہو	حرام کاری کرنا
عہدہ پائے، ترقی ہو	حکومت کرنا
دکار میں اضافہ ہو	حکم دیکھنا
مصیبت دور ہو جائے، مدد ملے	حکیم سے علاج کرانا

حمام میں غسل کرنا	غم دور ہو، شفا پائے
حوض دیکھنا	حالات بہتر ہوں
حوض خالی دیکھنا	نگلی حالات
حوض کاپانی پی لینا	کثیر مال ہاتھ لگے
حاجی دیکھنا	ترقی دین ہو، خوشی ملے
حاجی سے بغل گیر ہونا	حج کی سعادت نصیب ہو
حج کرتے دیکھنا	اللہ کی رحمت ہے
حج کے لئے جانا	تیک کام کرے، دیندار ہو، خوشی دیکھے
حضرت حسینؑ کو دیکھنا	عزت پائے، مرتبہ بلند ہو جائے
حضرت حسنؑ کو دیکھنا	ترقی کرے، خیر و برکت دیکھے
حساب قلم ہونا	مشقت اٹھائے
حساب کتاب کم ہونا	عزت گھٹ جائے، نقصان ہو
حساب پورا ہونا	عزت و کارنامے
حکم چلانا	لوگ مطیع ہوں
حکم ماننا	فرمانبرداری کرنا
حیض والی عورت دیکھنا	روزگار میں ٹھہر لو، رغبت بڑھے

بدرستی، نیک کام میں مصروفیت	بھرا دیکھنا
راہ مستقیم اختیار کرنا	حق حق کرنا
خوشی ملے، عدل و انصاف کی بشارت	حق کی تلاش

خ

خوشی ملنے والی ہے	خط ملنا
باعث راحت و آرام	خط پڑھنا
راز ظاہر ہو، بدنام ہو	خط کھلا دیکھنا
ظہور میں اضافہ ہو، مفارقت ہو	خط پھاڑ دیکھنا
خوشی حاصل ہو، فرزند پیدا ہو	خطبہ سننا
روحانی خوشی میرا آئے	خطبہ پڑھنا
مراد آئے	خاک دیکھنا
دولت جمع ہو	خاک اٹھانا
مال بوزر کا جانا	خاک اڑانا
نیک کام کرے	خندہ دیکھنا
نیک شکون ہو	خریوزہ دیکھنا

خزگوش سفید دیکھنا	حالات میں بہری، اچھی عورت ملے
خزگوش پکڑنا	عورت کی قربت
خزگوش کا گوشت کھانا	عزت و مرتبہ بڑھ جائے
خزگوش مردہ دیکھنا	عورت سے جدائی، رنج و غم
خزگوش کا ہڈا استعمال کرنا	صاحب عزت ہو، خوشی دیکھے
خزگوش سیاہ دیکھنا	عنت و مشقت، بد اخلاق عورت ملے
خچر پر سوار ہونا	ذلیل و بدنام ہو
خچر کا گوشت کھانا	حرام مال آئے
خچر مردہ دیکھنا	آرام ملے، حرام کی فکر
خزانہ پانا	باعث رنج و الم
خزانہ گم ہونا	ذلت و م سوائی ہے
خسک لکڑیاں دیکھنا	فائدہ پہنچے، دنیاوی مال ملے
خطاب لگانا	اپنے عیب چھپانے کی کوشش
خطیب سے ملنا	خوشی نصیب ہو
خوشبو سوگھنا	عزت و مرتبہ بلند ہو
خیمہ دیکھنا	سکون ملے، ترقی ہو

خیرہ میں ہلٹنا	مرتبہ اونچا ہو، عزت ملے
خون دیکھنا	ماں، حرام آئے، اسودگی ملے
خون کرنا	تندرستی ہو، دین سے دوری دنیا حیر
خون پینا	لوہہ کرے حرام مال کھائے
خون میں لوٹنا	حرام مال کی زیادتی
خون کا دریا دیکھنا	جنگ و جدل اور خون خرابا ہو
خرمالینیا دیکھنا	خوشی ملے، کام حیر ہو



داڑھی دیکھنا	نیکی کا کام کرے
داڑھی لمبی دیکھنا	ترقی دین ہو، برکت ہو
داڑھی زمین پر گرتی دیکھنا	بے عزت ہو، ذلیل اور سوا ہو
داڑھی چھوٹی دیکھنا	دین سے دوری، دنیا سے رخصت
داڑھی کالی و سفید دیکھنا	حالات حیر دنیاوی
داڑھی کاٹنا	دین و دنیا میں رسوائی
دار چینی دیکھنا	خوشی ہو، برکت ہو

دنیوی کام طیر ہو	دل ہر قسم کی دیکھنا
باعث پر رہی	دانت سونے کا دیکھنا
تکلیف بولے	دانت چاندی کا دیکھنا
مخارقت، دکھ تکلیف	دانت سیاہ دیکھنا
درازی عمر ہو، یا عزیز سے جدائی	دانت گرتے دیکھنا
زنج دور ہو، ترقی روزگار	دانت صاف سفید دیکھنا
مال و دولت آئے	دختر جوان دیکھنا
حالات میں بہری ہو	درخت پھلدار دیکھنا
رنج و الم آئے، بیماری آئے	درخت خاردار دیکھنا
عزت و مرتبہ بلند ہو، ترقی کرے	درخت پر چڑھنا
دشمن پیدا ہو	درندے دیکھنا
دشمن زیر ہو، کامیابی و کامرانی ہو	درندے پر سوار ہونا
آرام و سکون، آسودہ حال	درندوں کا چلے جانا
لوگ مطیع ہوں، افسر بنے	درندے بات کریں
دین دانہ ہو، اللہ کی رحمت ہو	درویش دیکھنا
تکلیف دور ہو، خیر و برکت ہو	درویش گھر میں دیکھنا

درویش سے لڑنا	دین سے دوری ہو کہ آئے
درویش کو ہراس دیکھنا	معیبت میں گرفتار ہو
دروازہ گھج دیکھنا	خوشی کی نشانی ہے
دروازہ بند دیکھنا	باعث پریشانی ہے
دروازہ اکٹرا	دیر لنی ہو پریشانی ہے
دروازہ کشادہ دیکھنا	رزق میں اضافہ ہو، ترقی ہو
دروازہ کھلا دیکھنا	حالات میں بہری، مال کثیر آئے
دروازہ تنگ دیکھنا	رنج و غم میں مبتلا ہو
دروازہ چمکتا دیکھنا	عزت میں اضافہ ہو
دروازہ سونے کا دیکھنا	پریشانی میں اجازت
دروازہ لوہے کا دیکھنا	محنت و مشقت میں اضافہ
دریادیکھنا	حصول مقصد کی نشانی
دریا میں تیرنا	مشکلات سے نجات
دریا میں ڈوبنا	معیبت میں گرفتار ہو، توبہ کرے
دریا کا پانی گدلا ہونا	پریشانی بڑھ جائے، بیماری آئے
دریا کے پانی پر چلنا	مرتبہ بلند ہو، کامیابی ہو، لوگ مطیع ہوں

دریا میں طغیانی دیکھنا	حالات میں افراتفری ملک میں بے چینی
دریا پانی سے بھر اویکھنا	حالات سازگار ہوں، سکون میسر ہو
دریا خشک دیکھنا	نگہ راستی ہو، قحط ہو، پریشانی میں اضافہ
دریا سے پانی پینا	آرام و سکون ہو، عزت بڑھے
دستر خوان دیکھنا	ترقی کاروبار
دستر خوان پر بیٹھنا	رزق میں فراوانی، وسعت کاروبار
دعوت میں جانا	حوشی ملے، دولت ہاتھ آئے
دشمن کو مارنا	محبیت سے ہٹکارہ
دشمن سے زیر ہونا	محبیت میں گھر جانا
دعا کرنا	دلی مراد آئے، خوشیاں ملیں
دعا گڑگڑا کر مانگنا	گناہوں میں کمی، توبہ کرے، دولت ملے
دعا سجدے میں مانگنا	اللہ کی رحمت کے زیر سایہ ہو
دل دل دیکھنا	دکھ اور پریشانی آئے
دل دل میں پھنسا	مغیبت و پریشانی میں گھرنا
دل دل سے ٹکنا	شگفتا ہے، محبت سے ہٹکارہ ہو
دراکھانا پینا	توبہ کرنے ندامت ہو، مشقت اٹھائے

دولہٹنا	عزت سے، دولت آئے
دودھ پینا	ترقی روزگار ہو
دودھ غیر عورت کا پینا	دین کا نقصان، دنیاوی حرام مال ملے
دودھ بھرے پستان دیکھنا	مال و متاع کثیر آئے
دوڑ لگانا	مقصد میں کامیابی ہو
دوڑنا پانی پر	شہرت میں اضافہ ہو، ترقی کاروبار ہو
دوڑخ دیکھنا	توبہ کرے یا دالئی میں مصروف ہو
دوڑخ میں خود کود دیکھنا	بد کردار ہو، گناہوں میں مبتلا ہو
دوڑخ سے نکلنا	مصیبت سے چھٹکارہ ہو، راحت ملے
دھواں دیکھنا	باعث پریشانی
دھواں گھر میں دیکھنا	متردض ہو، غم ملے
دھواں منہ سے نکلنا	رنج و غم اٹھائے
دھوئی دیکھنا	کسی دیدار آدمی کا ساتھ ہو
دھونا کپڑوں کو	گناہ سے توبہ کرے، حالات بہتر ہوں
دھونا منہ گندے پانی سے	ذلیل و خوار ہو، دین سے دوری
دھونا منہ صاف پانی سے	دیدار ہو، راحت و آرام ملے

ذہنی کھانا	مال حلال آئے
دہی کھانا کھانا	نقصان اٹھائے
دیگ دیکھنا	لڑکی باکرہ سے نکاح، نعمت ملے
دیگ پکاتے دیکھنا	عزت پائے خیر و برکت ہو
دیو دیکھنا	صدی آئے بہ نام ہو
دیو اڑنا	عمرہ میں ترقی ہو
دیو اڑ کرانا	دکھ مصیبت آئے، بے عزت ہو
دیو اربلہ ہونا	حالات میں ترقی ہو
دیو اڑ کھو کھلی ہونا	مصیبت آئے، حالات بگڑ جائیں
دو ٹہا دیکھنا	خوشی حاصل ہو
دلسن دیکھنا	فرزند ہو، خوشی ہو، مال ملے
دیوی دیکھنا	گمراہ ہو، دولت ہاتھ لگے
دیوی پوجنا	دین سے دور، حرام مال زیادہ آئے

ط
و

شری پند سے واسطہ پڑے

ڈاکو دیکھنا

ڈاکو کتارنا	پریشانی دور ہو، آرام آئے
ڈرنا یا خوف کھانا	بے فکری ہو، سکون حاصل ہو
ڈرنا شیر سے	دشمن سے ہے
ڈرنا سانپ سے	دشمن سے نقصان پہنچے
ڈوبنا خود کو دیکھے	توبہ کرے، مصیبت میں گرفتار ہو
ڈوب کر زندہ نکلتا	مصیبت سے بچکارہ، دین سے محبت
ڈھال سے جنگ کرنا	مصیبت میں کوئی مدد کرے
ڈھال توڑنا	بہر درد لوگ دور ہو جائیں
ڈولی دیکھنا	کسی کی موت آئے
ڈولی میں بیٹھنا	بھاری آئے یا موت آئے
ڈوبنا مکان دیکھے	مشکل میں پھنسے
ڈوبنا جہاز دیکھے	باعث پریشانی
ڈھونک جانا	باعث دکھ و مصیبت
ڈول سے پانی بھرنا	محنت سے روزی ملے
ڈول سے سو ادیکھنا	کسی سے قائدہ پہنچے
ڈگڑگی جانا	بے آمد ہو بدنام ہو

ذ

ذکر الہی کرنا	ترقی دین ہو، نیک کام کرے
ذکر دنیا کرنا	حرام طریقے سے مال آئے
ذکر دیکھنا	خیر و برکت ہو
ذبح کرنا	مال ہاتھ آئے
ذبح حرام جانور کرنا	دین سے دور ہو بہد کردار ہو
ذبح لڑکے کو کرنا	رحمت الہی نازل ہو، خوشی ملے
ذبح لڑکی کو کرنا	غم میں آئے، پریشان ہو
ذخیرہ تاج کرنا	ترقی کاروبار ہو
ذخیرہ پھلوں کا کرنا	دولت ملے، خوشی ملے
ذائقہ چکھنا	روزگار کی تلاش
ذائقہ چمکانا	حالات میں بہری آئے
ذائقہ کڑوا ہونا	روزق میں تنگی ہو، تکلیف ہو
ذکر کشادہ دیکھنا	رنج اٹھائے، موت واقع ہو
ذکر بوا دیکھنا	لولاد میں اضافہ ہو

اولاد بیمار ہو، مگر ہو	ذکرست دیکھنا
فرزند پیدا ہو	ذکر سلامت دیکھنا
حرام سے پرہیز کرے، اچھے کام کرے	ذکر و مگر کرنا پسننا

محمد کی زیارت ہو، مرتبہ بار ہو	روئے رسول دیکھنا
عبادت میں مصروفیت، پہری ہو	روزہ رکھنا
دین سے دور ہو، گناہ کرے	روزہ توڑنا
دلی آرزو پوری ہو، مال ملے	روزہ اظہار کرنا
خوشی ملے یا الٹ ہو	روٹی دیکھنا
دولت ملے، پیش و آرام ملے	روٹی کھانا
مال بخرت آئے	روٹیاں جمع کرنا
نیکی ملے، خوشی نصیب ہو	روٹی ہاشما
تھوڑی تکلیف اٹھائے	روٹی زیادہ گرم کھانا
سمان آئیں	رکالی دیکھنا
گرم میں تکلیف دیکھے	رکالی میں آگ دیکھنا

رنگ سفید کا پتراپننا	عزت و مرتبہ ملے
رنگ سرخ کا پتراپننا	دین و دنیا بہتر ہو
رنگ زرد کا پتراپننا	بھاری میں مبتلا ہو
رنگ سیاہ کا پتراپننا	باعث پریشانی ہو
رنگ نیلا کا پتراپننا	باعث اطمینان
رنگ خاکی کا پتراپننا	مرد کے لیے عزت، عورت کے لیے ذلت
رائی دیکھنا	فکر میں مبتلا ہو
رائی استعمال میں لینا	دکھ اور پریشانی اٹھائے
رائی کھانا	بھاری آئے، دکھ ہو
رس بٹھا پینا	باعث خوشی ہے، صالح اولاد ہو
رس بد ذائقہ پینا	نقصان ہو، پریشان ہو
رس دیکھنا	دیہدار بننے، دلی مراد آئے
رسی جلتی دکھنا	عزت ملے
رات تاریک دیکھنا	دین و حالات میں کمزوری ہو
راجا کو دیکھنا	عزت و مرتبہ ملے
راجا کو گھسے میں دیکھنا	نگلی ہو، بے آرامی ہو

عزت و ثروت ملے	رائی دیکھنا
ترقی دین ہو، راحت ملے	راستہ سیدھا دیکھنا
دین سے دوری ہو	راستہ ٹیڑھا دیکھنا
مصیبت آئے، تنگی ہو	ریت اڑتے دیکھنا
گمراہی ہو، تنگی آئے	راہ تنگ و تاریک ہو
عزت و مرتبہ پائے	رباط دیکھنا
سچائی کی طرف بڑھے	رومال خریدنا
حالات اچھے ہوں، تنگی ہو	روشنی دیکھنا
دین و دنیا کی دولت ملے	روشن گھر دیکھنا
گمراہ ہونا، حالات خراب ہوں	روشنی کم کرنا
پریشانی بڑھے	رونا چلا کر
دین و دنیا کی نعمت ملے	رونا آنسوؤں سے
بھار ہو، پھر شفا ہو	ریچھ دیکھنا
خیر و برکت ہو، عزت بڑھے	ریشم کا کپڑا دیکھنا
سفر کرے یا کوئی عزیز ملنے آئے	ریل گاڑی دیکھنا
خوشحالی یا الٹ	روپیہ پانا

باعت نگی	مدھیہ کم جانا
دین میں قلاح پائے	روح کو نیک دیکھنا
بدنام ہو	رشوت لینا
حرام چیزیں خریدنا	رشوت دینا
حرام مال آئے، بیابکاری کرنے	راکھ جمع کرنا
عزت بڑھے، حسین عورت ملے	رائی کو خوش دیکھنا

ز

فیس پائے کسی درگ سے	زاہد دیکھنا
درگ سے تر ہو، مرتد ہونا ہو	زاہد کو کھانا کھلانا
دین سے دور ہو، جگڑا ہو	نہان پہل دیکھنا
غیبت کرے بدنام ہو	نہان باہر نکلے ہو
باعث شرمندگی، معیبت آئے	نہان گلی دیکھنا
بے چینی ہو	زارغ دیکھنا
بہتان میں جلا ہو	زارغ بکھانا
سکون ملے، راحت ملے	زارغ لینا

زخم دیکھنا	تکلیف اٹھانے
زخم سے صیب لگنا	حرام ہاں آئے
زخم سے خون بہنا	راست باز ہو
زخمی ہونا	پریشانی سے نجات
زرد رنگ دیکھنا	ہمار ہو باعث پریشانی
زرد رنگ کا کپڑا پہننا	نخت ہمار ہو، پیروی صیب آئے
زرد پھول دیکھنا	ہماری آئے
زرد لباس اتارنا	شکلائے، نجات ملے
زرہ پہننا	کامیابی و کامرانی
زعفران دیکھنا	عزت و مرتبہ ملے، خوشی دیکھے
زعفران سے لکھنا	نو نچا عہدہ ملے
زکوٰۃ دینا	میل و دولت آئے
زکوٰۃ لینا	عزت ملے، خوشی ملے
زلف دیکھنا	باعث محبت
زلزلہ دیکھنا	باعث مصیبت
زلزلہ گھر میں دیکھنا	توبہ کرے، مصیبت آئے

فرزند پیدا ہو، حالات بکھر ہوں	زبرد (بھڑ) دیکھنا
بد کردار ہو، بدی صحبت ملے	زنجیر ہاتھ میں لینا
قبر کرے باعث پریشانی	زنجیر میں بندھا ہو
کام خیر ہو	زمین ہموار کرنا
غلط راستے سے مال آئے	زمین کھودنا
شقا ہو، آفات سے دوری، عمر بڑھے	زندہ کو مرد دیکھنا
پریشانی کے بعد حالات بکھر ہوں	زندہ کو قبر میں دیکھنا
فکر و پریشانی لاحق ہو	زندہ لیں دیکھنا
مصیبت میں گرفتار ہو	زندہ لیں میں قبر ہو
مشقت سے مال ملے	زمین کھود کر پانی نکالنا
غم آئے، ہلاکت ہو	زہر دیکھنا
مصیبت میں گھرنا، حالات سے بیزاری	زہر کھانا
فکر و پریشانی آئے	زینوں کا درخت دیکھنا
عورت سے مال ملے	زینوں کا تھل لگانا
تیک ہو، خوشی دیکھے	زینوں کا پھل دیکھنا
دین و دنیا دونوں سے فائدہ ہو	زیر دیکھنا

زینہ دیکھنا	کامیابی ملے
زینہ پر چڑھنا	عزت و مرتبہ بلند ہو، ترقی ہو
زینہ سے اترنا	ناکامی ملے، خیزی ہو
زینت کرنا	دعوت ملے، عیاری سے مال آئے
زندان توڑنا	مصیبت سے نجات حاصل کرنا، فریاد
زمین دیکھنا	خوشحورت عورت ملے، خوشی آئے
زراعت کو پانی دینا	دولت ملے، رزق زیادہ آئے
زخم بھرنا	مصیبت سے نجات، تکلیف دور ہو
زراعت کاٹنا	پریشانی سے بچکارہ ملے
زعفران کسی سے لینا	عورت سے مال ملے، دین سے لگاؤ ہو
زلی کو دیکھنا	بدنامی آئے، حرام مال آئے

س

سانپ دیکھنا	کوئی دشمن ہے
سانپ سیاہ دیکھنا	دشمن قوی ہے
سانپ چمک دار دیکھنا	قائد ہو

عزیز و اقارب میں دشمن ہے	سانپ گھر میں دیکھنا
دشمن سے نقصان ہو، پریشانی آئے	سانپ کو حملہ آور دیکھنا
مصیبت سے نجات، دشمن پر غالب	سانپ کو مار دینا
قائد ہو، سکون ملے	سایہ دیکھنا درخت کا
قدر و فساد ہو	ساگ دیکھنا
خوشی ملے، مرتبہ ملے	سبز زرد دیکھنا
فرزند پیدا ہو، دلی مراد ملے	ستارہ روشن دیکھنا
توبہ کرے، لاجن پریشانی	ستارہ گرتے دیکھنا
عزت و مرتبہ ملے، خوشحالی آئے	ستارہ جھلملاتے دیکھنا
مصیبت آئے، تکلیف ہوئے	سر سوں دیکھنا
ترقی حالات	سر سوں کا تیل لینا
باعث پریشانی	سر سوں کا تیل گرنا
عزت و کار ہوئے	سر سوں کا تیل لگانا
عزت و مرتبہ بلند ہو	ستون دیکھنا
خون خراب ہو، قتل و غیرہ میں پھنسے	سرخ چادر لینا
تیکہ پر بیزار ہو، راحت و آرام ملے	سرخ خریدنا

سرکٹا دیکھنا	عزت و درگی ہاتھ آئے
سیر کرنا	راحت و آرام لے
سفر کرنا	کاروبار میں قائم ہو
سمندر دیکھنا	حالات میں بھاری،
سورہ پڑھنا	سادے کام خیر ہوں
سمندر میں تیرنا	لوگوں میں ممتاز ہو، عزت ہو
سراپنا جد لو دیکھنا	پریشانی آئے، جدائی ہو
سمندر کی موجیں دیکھنا	خوشحالی آئے، حکمران اچھے کام کریں
سورہ دیکھنا	حرام مال بے غیرتی سے آئے
سورہ دیکھنا	بد کردار سے بچنا، خطرے سے گھوٹ
سورج دیکھنا	عزت و مرتبہ بلند ہو
سورج زمین پر دیکھنا	بوائی لے، فرزند ہو، عمدہ لے
سورج گھر میں دیکھنا	بیش و عشرت آئے
سورج گھر میں دیکھنا	باعث مصیبت
سورہ دیکھنا	مرد کے لئے نقصان دہ
سورہ دیکھنا	برکت ہو، نیک اولاد پیدا ہو

سیب خریدنا	رزق طلال ملے
سیب دیکھنا	کاروبار میں ترقی
سیب خریدنا	حالات میں بہتری آئے
سیب جیب میں رکھنا	نفع حاصل ہو
میٹر می دیکھنا	ترقی روزگار
میٹر می پر چڑھنا	مرتبہ بلند ہو جائے
میٹر می سے اترا	تیزی ہو، پریشان ہو
سایہ بال سفید دیکھنا	فرزند نیک پیدا ہو، خوشیاں ملے
سر منڈوانا	باعث بہتری
سر کباں کٹے دیکھنا	راحت و آرام ملے، خوشی آئے
سیگ دیکھنا	حالات میں بہتری آرام ملے
سیسہ پھٹانا	بڑائی سے واسطہ پڑے
سوئی سے کپڑا سینا	نیک کام کرے
سورج گرہ	پدنامی آئے، خوار ہو
سونا فروخت کرنا	صحبت سے بھٹکارہ ہو
سٹر سواری پر کرنا	ترقی حالات

سائن خریدنا	عزت ملے، سکون ملے
سبزی خریدنا	شفا ہو، غم و فکر سے نجات

ش

شادی کرنا	خوشی ملے یا رنج سے واسطہ پڑے
شاخ شاداب دیکھنا	صالح لولاد پیدا ہو، حالات میں بہتری
شاخیں کاٹنا	برائی آئے، موت واقع ہو
شامیانہ دیکھنا	عزت و قار ملے، ہدائی ہو
شامیانہ میں بیٹھنا	راحت و آرام ملے، نفع ہو
شامیانہ گرنا دیکھنا	تیزی ہو باعث پریشانی
شاہین پکڑنا	عزت و مرتبہ بلند ہو، نفع ہی نفع ہو
شراب پینا دیکھنا	حرام مال ملے، دین سے دوری
شرمت خریدنا	خوشحالی آئے، بہتری ہو
شرم گاہ عورتوں کی دیکھنا	لڑکی پیدا ہو، فائدہ ہو
شرم گاہ مرد کی	ندامت پریشانی

اچھی عورت یا صالح آدمی سے واسطہ پڑے	شاد غریبہ
خوشی و راحت ملے	شکر مرغ دیکھنا
بہرہ و دولت سے تعاون ملے	شاد کرنا
فساد و فتنہ ہو	شکر بیچ کھلنا
باعث دکھ و پریشانی ہے	شکر دیکھنا
مصیبت نازل ہو	شکر آسمان پر دیکھنا
جنگ و جدل ہو، خون خرابا ہو	شکر زمین سے اٹھنا
دیداری کی علامت	شکر غریبہ
حالات میں بہتری، نیک کام کرے	شکر فروخت کرنا
باعث خوشی، فرزند پیدا ہو	شکر کھانا
مال ملے، عزت ہو	شکر کرنا
حالات پر قابو پائے، دشمن پر فتح	شکر شیر کا کرنا
مرض سے نجات ہو کر دار دشمن پر فتح	شکر بچہ کا کرنا
بد خصلت آدمی سے ہے	شکر میوہ کا کرنا
بد کردار عورت پر قابو پائے	شکر لومڑی کا کرنا
حلال مال ملے، راحت سکون ملے	شکر قندی دیکھنا

شکر قندی خریدنا	ترقی کاروبار
گلاب دیکھنا	بھاری ہو باعث پریشانی
شائلمہ دیکھنا	رنج و غم آئے
شائلمہ کا کھیت دیکھنا	ترقی حالات اور خوشحالی
شیشیر دیکھنا	خوشی ملے
شیشیر اٹھانا	عزت و کاروبار، فتح پائے
شیشیر کمر میں باندھنا	حسین عورت ملے بلند مرتبہ ہو
شیشیر لوٹنا	تیزی ہو، موت واقع ہو
شیر دیکھنا	ترقی حالات، عالی مرتبہ
شیر روشن دیکھنا	عیش و عشرت ملے، مال و زر آئے
شیر گھر میں دیکھنا	حسین عورت ملے، دلنثار ہو
شیر دامن دیکھنا	باعث خوشی، شفا ہو
شیر دامن سیاہ دیکھنا	بھاری ہو، عورت سے رنج
شہد خریدنا	حلال مال آئے، دین سے لگاؤ
شہد کھانا	خوشی آئے بھاری سے شفا
شہد کی کسی دیکھنا	ترقی روزگار، خوش اخلاق عورت ملے

شہد کی کہیاں پکڑنا	فردنی مال، رزق میں برکت
شیر دیکھنا	دشمن قوی ہے
شیر پر سوار ہونا	دشمن کو زیر کرنا، حالات پر قابو پانا
شیر کو ہلاک کرنا	دشمن پر فتح، ترقی حالات
شیر مطیع دیکھنا	لوگوں میں عزت ہو، ممتاز ہو
شیر کا گوشت کھانا	دولت کثیر آئے
شتر مرغ دیکھنا	حرم میں پہنچنے
شیطان دیکھنا	دین سے دوری، گناہ کی علامت
شیطان سے لڑنا	برے فعل سے بچنا، نیکی کی طرف قدم
شیطان کو مطیع دیکھنا	حرام مال کی دلیل

ص

سج صادق دیکھنا	دین سے لگاؤ، خوشی ملے
صاف خریدنا	نیکی اختیار کرے
صاف سے کپڑا لے کر	برے کام سے بچے، بھاری ہو گئے
صاف کھانا	حرام مال سے لگاؤ

دلی مراد آئے، عورت فرہنگدار ہو	صحت بخوشی سے کرنا
ہل کثیر طے باعث خوشی ہے	صحت جوان لڑکی سے کرنا
کام میں نفع ہو	صحت مرد سے کرنا
حسین و جمیل عورت سے رفعت ہو	صراحی دیکھنا
خوبصورت لڑکی فریفت ہو	صراحی شرم کی ہو
عورت سے ہدائی ہو	صراحی ٹوٹنا
حلال برزق کے لیے ہر وہ	مخادر وہ پر چھٹا
عزت طے	مخادر وہ سے اترنا
دین سے رفعت ہو باعث خوشی	مخادر وہ پر دوڑنا
اچھے حالات کی نشانی	مخانی کرنا
مصیبت سے بچکارہ طے بہری ہو	مخانی گھر کی کرنا
عزت طے، کاروبار میں ترقی ہو	مخدل خریدنا
کوئی ہوا آدمی بد کرے	مخدل سفید لینا
عزت طے باعث خوشی	مخدل سرخ لینا
دین سے دوری	مخلیب دیکھنا

صلیب گردن میں ڈالنا	گمراہی میں پڑنا
صلیب توڑنا	نیکی کی طرف بڑھنا
صندوق دیکھنا	عزت و مرتبہ بلند ہو
صندوق خریدنا	لوگوں میں عزت بڑھے
صندوق توڑنا	عورت سے جدائی بہر نامی ہو
سیارہ دیکھنا	تنگی روزگار، کمزور قریب ہو
صلح کرنا	باعث خوشی، عزت بڑھے
سحر اشاد بپ دیکھنا	دوسروں سے فیض ملے
سحر انسان دیکھنا	مصیبت آئے، لوگوں سے تعاون نہ ملے
صدقہ دینا	قرض ادا ہو، شفا ہو
صدقہ لینا	تنگی معاش ہو
سالح آدمی دیکھنا	نیکی کا کام کرے
صحت مرد سے کرنا	باعث ندامت ہے
منجانی مسجد کی کرنا	گناہ سے دور ہو، پرہیزگار بنے
منجانی باہر کی کرنا	نیکی کام کا اشارہ باعث خوشی

ض

حالات میں ترقی ہو، فطلائے	حیات دینا
تنگی کا اشارہ	ضعیف دیکھنا
باعث پریشانی ہے	ضعیف نامعلوم سے گلے ملنا
باعث خوشی ہے، بھری آئے	ضعیف دیدار سے ملنا
نفسانی خواہش ہو، قرض دار آئے	ضرورت مند دیکھنا
ترقی حالات ہو، عزت ہو	خیانت کھانا
لوگ قائمہ اٹھائیں، سخی کی دلیل	خیانت کرنا
حالات میں تنگی	ضائع پانی کا ہونا
قائدہ ہو یا باعث پریشانی	ضائع مال ہونا
مرتبہ طے	خود کرنا
باعث پریشانی ہے	خودی ہو دیکھنا
دنیاوی لالچ آئے	ضرورت محسوس کرنا
تیزی ہو بدنام ہو	ضعف پڑنا
iqbalkammatiblogspot.com	ضبط کرنا

شرور حتمی کو کچھ دینا	دین سے رغبت باعث نیکی
شیائیت میں نہیں جانا	مصیبت میں مبتلا ہو، رزق میں کمی

ط

طاق دیکھنا	مال کثیر آئے، عزت ملے
طاق منہر کا دیکھنا	نیکی کی طرف سے، عزت ملے
طاق کا ٹوٹنا	باعث پریشانی ہے
طاق مور دیکھنا	عزت و مرتبہ بڑھے، حالات میں بہتری
طبلہ دیکھنا	بد قماش لوگ ملیں
طوطا دیکھنا	مال حرام آئے
طوطا خریدنا	عیار لوگوں سے مال ملے
طوطا اڑنا	عزیز سے جدائی، باعث فکر
خولے کا گوشت کھانا	نا جائز اور حرام مال آئے
لمخیانی دیکھنا	باعث خوشی ہے
لمخیانی میں بہنا	مصیبت آئے باعث پریشانی
طلاق دینا	باعث خوشی

طوفان دیکھنا	فکر و پریشانی لاحق ہو
طوفان میں گھرنا	مصیبت آئے، توبہ کرے
طوفان سے نکلنا	باعث رحمت، مشکلات سے بچنا
طوائف دیکھنا	میش میں پڑے، مال حرام آئے
طوائف سے شادی کرنا	مال و دولت کثیر آئے، میس دیکھے

ظ

ظالم کو دیکھنا	برے کام کرنا، غم کا سامنا
ظلم کرنا	برائی اور بدنامی ہو
ظالم کو ہلاک کرنا	باعث امن، خود غرض ہو
ظالم کو دوست دیکھنا	برے لوگوں کا ساتھ ہو
ظالم کو کھانا کھلانا	بدکار سے دوستی ہو
ظہر کا وقت دیکھنا	تنگی آئے، پریشانی ہو
ظلمت دیکھنا	باعث پریشانی، رنج اٹھائے
ظلمت زور ہونا	حالات اچھے ہوں، غم دور ہوں
ظلمت شہر پر دیکھنا	توبہ کرے، ناگہانی مصیبت آئے

ظروف خریدنا	دین سے دوزی
ظروف چھنا	لوگوں کو غلط راستہ دکھانے
ظروف توڑنا	نیکی اور امن کا کام کرے
ظروف زیادہ جمع کرنا	حرام مال کے لئے کوشش
ظالم کو قید کرنا	نیکی کا کام کرے بعد سے دور ہو

ع

عالم دیکھنا	برکت ہو، سیدھا راستہ اختیار کرے
عالم ہونا	عزت و مرتبہ ملے
عالم دیکھنا	باعث خوشی
عالم سے کچھ لینا	ترقی حالات، مال آئے
عبادت کرنا	دین سے لگاؤ، بھری کی نشانی
عبادت گھر میں کرنا	برکت نازل ہو، ترقی ہو
عبادت گندی جگہ کرنا	بدنام ہو، ذلیل ہو، باعث پریشانی
عجائب گھر دیکھنا	حالات پر قابو ہو، اچھی خبر ملے
عزرائیل فرشتہ دیکھنا	توبہ کرے، موت آئے، مصیبت آئے

عزت و نعت ملے	حقیق دیکھنا
اچھا کام کرے، نیک و پرہیزگار ہو	صلہ خریدنا
عالم کا ساتھ ہو	بیک خریدنا
عزت گئے، عالم سے دوری ہو	بیک ٹوٹنا
بد کردار سے واسطہ پڑے	عقاب دیکھنا
دشمن کو زیر کرے، پریشانی سے نجات ہو	عقاب کو ہلاک کرنا
ترقی حالات	عورت جو ان دیکھنا
دلی مراد آئے	عورت کو گود میں لینا
روزگار بوسے، ترقی ہو	عورت باکرہ سے ملنا

غ

باعث پریشانی	غار دیکھنا
رنج و غم میں مبتلا ہونا	غار میں جانا
حالات بہتر ہوں، شفا ہو	غار سے نکلنا
عزت و مرتبہ ملے، سکون قلب ملے	غار حرا دیکھنا

نہی اور اپنا	مصیبت سے چھٹکارا ملنا
خبر اڑنا دیکھنا	باعث مصیبت ہے
حسل کرنا	شفا ہو، قرض سے نجات ملے
غصہ کرنا	دین سے دوری ہو
غلاف دیکھنا	عورت سے واسطہ پڑے
غلاب کا ڈھیر دیکھنا	محنت و مشقت زیادہ ہو
غلاب خریدنا	بھگی رزق ہو
غلاب فروخت کرنا	حالات بہتر ہوں باعث خوشی
غلام ہونا	بدنامی آئے، رسوائی ملے
غلام آزاد کرنا	دنیا سے مفارقت
غش کھانا	مشکلات میں پڑے
غلیل مٹانا	ظلم و تشدد کے طرف مائل ہونا
غلیل توڑنا	بھگی کی راہ اپنانا

ف

فاختہ دیکھنا	نیک اور فرمانبردار عورت ملے،
--------------	------------------------------

روزِی میں اضافہ ہو	قوارہ دیکھنا
حالات کی بھری، عورت سے تعاون	فاختہ پکڑنا
مال آئے اور نگرہ پریشانی بھی ہو	فاختہ کا گوشت کھانا
باعث خوشی	فاختہ اڑتے دیکھنا
رنج و غم میں مبتلا ہو	فاختہ مردہ دیکھنا
تنگی روزگار، مصیبت آئے	فاختہ کو مار دینا
خوشی ملے، فیض حاصل ہو	قالہ کھانا
عزت و مرتبہ بلند ہو، مالدار ہو	فرشتہ دیکھنا
برکت ہی برکت ہو، باعث خوشی و مسرت	فرشتہ گھر میں آنا
عزت و مرتبہ بلند ہو	فیل پر سوار ہونا
ترقی حالات، عزت و مرتبہ	فوج دیکھنا
باعث خوشی	فوج میں بھرتی ہونا
عزت و مرتبہ بلند ہو	فوجی خود کو دیکھنا
کامیابی ہو	فیروزہ دیکھنا
باعث پریشانی ہے	فقیر دیکھنا
ترقی حالات، آرام و سکون ہو	فقیر کو خیرات دینا

فرعون دیکھنا	دین سے دوری، عتاب کا شکار ہو
فرنی دیکھنا	باعث خوشی
فاحشہ عورت دیکھنا	عزت گھٹے بہ نامی آئے

ق

قافلہ دیکھنا	ترقی کاروبار باعث خوشی
قافلہ میں شامل ہونا	سز کرے
قبر دیکھنا	باعث فکر
قبر کھودنا	مشکلات آئے، محنت و مشقت اٹھائے
قبرستان جانا	قابل عبرت کام
قتل کرنا	پہ نام ہو، عزت گھٹے
قتل ہونا	دین سے رغبت، گناہ سے دوری
قتل گاہ دیکھنا	توبہ کرے، پریشانی ہوے
قربانی کرنا	پریشانی سے بچتا، شفا پائے
قربانی کا گوشت دیکھنا	دین میں فلاح پائے باعث خوشی
قربانی ہونا	نیک کام کرے، کسی کی مدد

قرآن پڑھنا	باعث عیش، نیک کام کرے
قرآن لکھنا	حلال رزی پائے
قرآن خریدنا	اللہ کی خوشنودی، دین سے دلچسپی
قرآن پھاڑنا	توبہ کرے، ذلت و رسوائی، تنگی حالات
قرآن کے ورق اڑنا	مصیبت آئے، ذلت اٹھائے
قرآن پڑھتے سنتا	ایک جمے حالات کی نشاندہی، تنگی کرے
قرآن کی تجارت	اصلاح دین، حلال طریقہ اپنائے
قلم توڑنا	دین سے دوری، گمراہ ہونا
قفل دیکھنا	نئے کام کی شروعات، کام طویل ہوں
قصاب دیکھنا	تنگی حالات، باعث پریشانی
قصاب خود کو دیکھنا	رنج و غم میں مبتلا ہو
قصاب سے گوشت لینا	ذلت و رسوائی آئے، پریشان ہو
قلم خریدنا	عزت و مرتبہ بڑھے، علم میں ترقی ہو
قد خریدنا	مقصود آئے، نفع ہو
قدیل روشن دیکھنا	مرتبہ بلند ہو، باعث خوشی
قدیل بجھتی دیکھنا	ہدایا ہو، تنزلی ہو

گناہوں سے توبہ کرے باعث غم	قیامت دیکھنا
باعث پریشانی	قبر پھلی دیکھنا
پریشانی آئے	قینچی سے دیکھنا
قدرے رنج لے	قینچی کپڑا کاٹنا
انصاف لے، آرام لے	قاضی دیکھنا
باعث خوشی	قالین خریدنا
کامیابی لے	قلعہ دیکھنا
مرتبہ بلند ہو	قلعہ میں جانا
باعث پریشانی، عملی حالات	قلعہ کھنڈر دیکھنا
قدر و منزلت قسم ہو	قد چھوٹا ہونا

ک

تیک عمل کرے، اچھی خبر لے	کان صاف کرنا
ہدائی ہو، رنج پہنچے	کان اپنا کٹا دیکھنا
مربادی وقت	کان لمبے چوڑے دیکھنا
رنج و الم ہو، دین سے دور ہو	کافر ہونا

کاغذ خریدنا	علم میں اضافہ، ترقی ہو
کاجل لگانا	باعث خوشی ہے، سکون ملے
کافور لینا	مرتب ملے، نفع حاصل ہو
کیوتر دیکھنا	نیک عورت سے واسطہ،
کیوتر اڑانا	مال ضائع ہو، عورت سے رنج ملے
کیوتر کا گوشت کھانا	حسین عورت سے قربت ہو، بہتری آئے
کیوتروں کا غول دیکھنا	بال بھرت آئے، ترقی حالات
کپڑا دھونا	باعث خوشی، گناہوں سے دوری
کپڑا بچھنا	رنج و پریشانی سے نجات
کپڑا سیاہ خریدنا	رنج و غم آئے
کپڑا زرد خریدنا	باعث حسداری
کئے کا کاٹنا	دشمن سے نقصان ہو
کنا مطیع دیکھنا	دشمن زیر ہو، دوسروں سے فائدہ پہنچے
کچھو دیکھنا	باعث خوشی ہے، نفع ہو
کتاب پڑھنا	علم میں ترقی ہو
کتاب متفرق پڑھنا	مضمون کے حساب سے اثرات

کتاب خریدنا	خیر و کسب کی نشانی
کھٹائی کھانا	رنج و غم ہو،
کباب کھانا	رنج و غم دور ہو،
کرسی پر بیٹھنا	عزت و مرتبہ میں تنزلی آئے
کرتا سفید دیکھنا	عزت دیکھے
کرتا پھٹا دیکھنا	عزت و مرتبہ میں تنزلی آئے
کسان کام کرتا دیکھنا	رزق میں اضافہ ہو
کشتی میں سوار ہونا	باعث خوشی، حالات میں بہتری
کشتی چلانا	دلی مراد آئے، کامیابی قدم چوسے
کشتی بھور میں پھنسا	مصیبت آئے، توجہ کرے
کشتی ڈوبنا	بڑی مصیبت میں مبتلا ہو
کشتی خشکی پر آنا	پریشانی ہو، حالات تنگ ہوں
کشتی کھڑ میں پھنسا	عزت و مرتبہ گھٹے، باعث پریشانی
کشمش دیکھنا	خوشی دیکھے، بے کسب ہو
کشمش خریدنا	ترقی کاروبار، جلال مال آئے
کعبہ دیکھنا	بہتر مرتبہ ملے، خوشیاں دیکھے

کعبہ کا طواف کرنا	نیک عمل کرے، دین سے رغبت ہو
کفن خریدنا	رنج و الم آئے، پریشانی ہو
کلاہ خریدنا	باعث عزت ہے، پریشانی سے دور ہو
کلاہ پہننا	عزت و مرتبہ بلند ہو
کلاڑی دیکھنا	مناقت سے واسطہ پڑے
کمان سے تیر چلانا	سزا کرے، فائدہ ہو
کنواں دیکھنا	باعث مسرت ہے (کنواں خشک نہ ہو)
کنواں کھودنا	مقصد میں کامیابی ہو، کام پورا ہو
کنگن پہننا	مرد کے لیے رنج، عورت کے لیے فائدہ
کنگھی کرنا	قرض ادا ہو، پریشانی دور ہو
کوادیکھنا	بد کردار سے واسطہ پڑے
کو اہلاک کرنا	پریشانی سے بچکارہ، دشمن زیر ہو
کوڑا پھڑنا	عہدہ ملے، ترقی ہو
کوڑا توڑنا	تیزی ہو، فکر لاحق ہو
کجور کے درخت پر چڑھنا	کامیابی و کامرانی ہو، ترقی حالات
کجور خریدنا	تنگدستی دور ہو، عزت ہو

کھجور توڑنا	باعث خوشی، فائدہ پہنچے
کھیت شاداب دیکھنا	خوشحالی ہو، آرام و سکون ملے
کھیت بخر دیکھنا	باعث پریشانی، حالات میں تنگی ہو
کھیت میں آگ لگانا	توبہ کرے، رنج و الم آئے
کھیت میں چلنا	زراعت سے روپیہ ملے
کیلا خریدنا	ترقی کاروبار
کیلا کھانا	آرام و سکون ملے، عزت بڑھے
کیلا کچا خریدنا	ترقی میں رکاوٹ
کوئل دیکھنا	حسین اور محبت والی عورت ملے
کوئلہ خریدنا	رنج و غم میں اضافہ ہو، بدنامی ہو
کپڑے میں پھنسا	مصیبت میں مبتلا ہو
کپڑے لگانا	دکھ اور بیماری سے نجات ملے
کرن گھر میں دیکھنا	خوشحالی آئے، مرتبہ ملے
کنول کا پھول دیکھنا	خوشحالی آئے، خوشی ملے
کنوئیں میں گرنا	تیزی ہو، موت آئے
کھانا گلے میں پھنسا	بیمار ہو، مصیبت میں گھرے

راحت و آرام لے	کدھل سے کھودنا
دلی مقصد پر راہو	نگوڑی خریدنا

گ

باجٹ خوشی ہے	گاجر کا حلو اور کھینا
ترقی حالات، رزق میں اضافہ ہو	گائے فریبہ دیکھنا
نگلی حالات، حیرانی و پریشانی	گائے کمزور دیکھنا
آرام و سکون نصیب ہو	گدھا دیکھنا
مال زیادہ آئے، ترقی لے	گدھا خریدنا
خوشی لے، برکت ہو، ترقی لے	گدھے پر سوار ہونا
عزت و مرتبہ گھٹنے	گدھے سے گرنا
متقی آدمی سے فائدہ پہنچے	گدھ دیکھنا
مال و دولت آئے	گدھ گھر میں دیکھنا
دین سے دوری	گرجا میں جانا
گمراہ ہونا، اپنوں میں قدر کھودے	گرجا میں نماز پڑھنا

گر دڑا دیکھنا	رنج و غم میں مبتلا ہو، تنگی آئے
گر جتا بدل کا	باعث خوشی ہے
گڑھا کھودنا	حرام راستے مال ملے
گڑھے میں گرنا	مصیبت میں مبتلا ہو، دھوکہ ملے
گرنا اونچائی سے	عزت گمے، تنزلی آئے
گرنا ٹھوکر سے	تنگی رزق، باعث پریشانی
گڑھے سے لگانا	رنج و غم سے بچنا
گلاب کا پودا لگانا	حالات میں ترقی ہو
گلاب کے پھول دیکھنا	فرزند پیدا ہو باعث خوشی و مسرت ہے
گلدستہ دیکھنا	امی خبر ملے، بہری آئے
گلاب خریدنا	مال کثیر آئے، باعث خوشی ہے
گلاب کھانا	قرض سے نجات ملے، شفا ہو
گنا دیکھنا	خیر و برکت کی نشانی ہے
گنے کا رس نکالنا	کاروبار میں نفع ہو، عزت بڑھے
گنہ دیکھنا	عزت و مرتبہ بلند ہو، حسین عورت ملے
گنہ پر چڑھنا	ترقی حالات، قروض و محنت ملے

گوٹکا ہونا	دین سے دوری، مگر ابی آئے
گھر لوہے کا بنانا	محنت و مشقت اٹھانے
گھر سونے کا دیکھنا	باعث پریشانی ہے
گھنگرود دیکھنا	باعث لڑائی و جھگڑا
گھوڑا دیکھنا	مال ملے، مرتبہ ملے
گھوڑے پر سوار ہونا	قدر و منزلت میں اضافہ ہو
گھوڑے کا گوشت کھانا	حلال روزی کی دلیل
گھوڑا سیاہ دیکھنا	عہدہ میں ترقی ہو
گھوڑا سفید دیکھنا	عزت، مرتبہ، مال و دولت آئے
گھوڑی دیکھنا	عورت سے واسطہ
گھی خریدنا	مال ملے لیکن بے چینی و بیکاری رہے
گھی فروخت کرنا	عزت بڑھے، مال و دولت میں اضافہ ہو
گینڈا دیکھنا	رنج و ملال ملے
گینڈا دیکھنا	دشمنی ہو
گینڈا مارنا	دشمن زبر ہو، کامیابی ہو
گیہوں دیکھنا	رزق میں ترقی ہو

حالات میں بھری آئے	گیسوں خریدنا
شفا پائے	گدھی کا دودھ پینا
باعث خوشی ہے	گدھی پر سوار ہونا
رنج و غم آئے، حرام مال ملے	گوشت کچا دیکھنا
خیر و برکت ہو	گوشت پکا ہوا دیکھنا
ذلت اٹھائے، باعث ندامت ہے	گناہ سنا

ل

خیر و برکت ہو، امداد ملے	لاٹھی دیکھنا
عزت و مرتبہ بلند ہو	لاٹھی پکڑنا
ذلت دور سوائی ہو	لاٹھی توڑنا
متقی پر بیزار ہو، عزت و دولت آئے	لباس سفید پہننا
بورگ کی صحبت ملے، قائدہ ہو	لباس سبز پہننا
بورگی ملے رنج شامل ہو	لباس سیاہ پہننا
ٹھسے میں اضافہ ہو، کسی سے مقابلہ ہو	لباس سرخ پہننا
عورت بیا کرہ سے واسطہ پڑے	لٹاف خریدنا

عورت سے قریب ہوئے	لٹاف لوڑھنا
خیر و برکت ہو	لڑکی دیکھنا
مال کثیر آئے، ترقی ہو، خوشی آئے	لڑکی سے میل ملاپ
رنج و مصیبت کی نشانی ہے	لسی پینا
ترقی ہو، رزق میں اضافہ ہو	لنگر دیکھنا
حالات میں بہتری کے لیے کوشش	لنگر میں شامل ہونا
مصیبت سے نجات ہو، خوشی ملے	لنگر کو فتح پانا
دھوکہ کھائے	لوٹری دیکھنا
باعث پریشانی ہے	لیہود دیکھنا
حرام مال ملے	لسن خریدنا

م

باعث خوشی ہے، مال زیادہ آئے	مچھلی دیکھنا
مال زیادہ آئے	مچھلی پکڑنا
ترقی رزق ہے، حلال مال ملے	مٹھائی کھانا
حالات بہتر ہوں	مٹھائی بائنا

دلی مراد آئے	ما تم کرنا
عزت بڑھے، مال میں اضافہ ہو	ماش کی دال کھانا
خوشحالی دیکھے	مال بوردولت دیکھنا
باعث خوشی ہے	محفل میں جانا
رنج و غم دور ہوں	پھسر مارتا، بھٹکانا
خوشی ملے	محراب دیکھنا
عزت و مرتبہ بلند ہو، خوشی ملے	مدینہ شریف دیکھنا
باعث خوشی ہے، غم سے نجات ملے	مردہ زندہ دیکھنا
کسی کو نصیحت کرے	مردہ شملانا
حالات میں بہری آئے	مردہ سے کچھ لینا
بہری ہو، مال سکون آئے	مردہ سے صحبت کرنا
فکر لاحق ہو، دین سے گمراہ ہو	مردوں کی جماعت دیکھنا
لوگ مطلع ہوں	مرغ دیکھنا
راحت و آرام ملے، خوشی آئے	مرغ ذبح کرنا
خوشی کی خبر ملے	مرغ کا اذان دینا
مال و زر میں اضافہ ہو	مرغی سمعہ چوزوں کے دیکھنا

مرغابی دیکھنا	عزت و مرتبہ ملے
مرغابی کا گوشت دیکھنا	مال و دولت کثیر آئے
مسجد میں نماز پڑھنا	دین و دنیا کے لیے خوشی ہے
مسجد عالی شان دیکھنا	دین میں ترقی ہو، خوشی و سکون ملے
مسجد پرانی و پران دیکھنا	رنج و غم آئے، دین سے میکانہ ہو
کھیاں دیکھنا	بد کردار آدمی سے نقصان پہنچے
کھیاں مارنا	بد خصالت سے دور ہو یا تنگی معاش ہو
مگر چھ دیکھنا	بد قماش سے واسطہ پڑے
مکڑی دیکھنا	باعث رنج و غم ہے
منبر پر خطبہ دینا	عہدہ میں ترقی ہو، عزت و وقار ملے
مور دیکھنا	لوگوں سے تعاون ملے
مور کا چماد دیکھنا	جاہ و دولت میں اضافہ ہو
موتی خریدنا	حسین عورت سے فائدہ ہو
مہندی لگانا	مال و دولت میں اضافہ ہو
میدہ خریدنا	راحت، آرام و خوشی سے تعبیر ہے
موتیوں کی لڑی لینا	عزت و مرتبہ بلاہ جائے

علم و معلومات میں اضافہ ہو	مدرسہ میں پڑھنا
دین و دنیا میں ترقی ہو، عزت و مرتبہ بڑھے	بیمار پر چڑھنا
کاروبار میں ترقی	بیمار بنانا
ذلیل و رسوا ہو، توبہ کرے	بیمار سے گرنا
رحمت خداوندی ہے، خوشی ملے	سنان گھر آنا
ترقی کاروبار ہو، فرزند پیدا ہو	بچہ لوہے کی گاڑنا
حالات ٹھیک ہونا باعث خوشی	میدہ خریدنا
خوش و خرم ہو، خوشحالی آئے	بندہ بننا
رنج و غم سے چھٹکارہ، دین سے لگاؤ	بندہ میں نہانا
حالات بہتر ہوں	ماں بہن سے صحبت کرنا
عزت و وقار بڑھے	ماں چاکلہ دیکھنا
پد کردار عورت سے واسطہ	مٹی کا قیل خریدنا
توبہ کرے، نیکی کی دلیل	کڑی دیکھنا
بہر روی کرنا	مرہم لگانا
خیر و برکت ہو، ترقی حالات	کھن دیکھنا

ن

عمر بڑھے، رزق میں ترقی ہو	ناک لمبی دیکھنا
حرام مال ملے، مال فلتا جگہ خرچ ہو	ناک سے خون بہنا
ذلت و رسوائی ہو	ناچ دیکھنا
رنج و غم میں پڑے	ناچنا خود کا
باعث پریشانی و بدنامی ہے	ناچنا عورتوں کا
حالات بکھر ہوں، رزق میں اضافہ ہو	ناخن کاٹنا
تیزی ہو، عزت گھٹے	ناخن لمبے دیکھنا
مال و دولت آئے	نارنگیاں خریدنا
باعث خوشی ہے	بھس دیکھنا
حرام مال ملے	نہجاست دیکھنا
ترقی کا روبرو	ندی دیکھنا
عزت و مرتبہ بلند ہو	ندی میں نہانا
عمر و بلند ملے، عزت بڑھے	نقارہ جانا
خوشی ملے، مال کثیر ہاتھ آئے	نکاح کرنا

نرس کا پھول دیکھنا	حسین عورت ملے، فرزند پیدا ہو
نرس کا پھول سجانا	حسین باکرہ ملے
گلیہ انگوٹھی کا دیکھنا	راحت، آرام، سکون، حالات کی بہتری
نکا ہونا	ذلت و بدنامی ہو
نکا عورت کو دیکھنا	باعث خوشی ہے، مال و دولت کثیر ملے
نماز پڑھنا	باعث خوشی ہے، ترقی ہو دین میں
نماز میں امامت کرنا	عہدہ بڑھ جائے، ترقی ہو
نمک سفید دیکھنا	راحت و آرام ہو، ترقی کاروبار
نسر دیکھنا	حالات اچھے ہوں
نسانا صاف پانی سے	دکھ مصیبت دور ہو
نسر میں نسانا	ترقی حالات، مرتبہ بلند ہو
نیاز دینا	خوشی ملے، دلی مراد آئے
نیزہ پھینکنا	تیزی ہو
نیزہ بازی کرنا	عزت و توقیر ملے
نیزہ توڑنا	تنگی ہو، ہمار ہو، مرتبہ گھٹے
نہولا پکڑنا	اچھے لوگوں کا ساتھ ہو، عزت بڑھے

خوشی کی دلیل	تاریخ دیکھنا
دشمن پر فتح پانا، غم سے نجات	نیولا مارنا
دشمن زیر ہو، بھلائی ہو، خوشی ملے	نیولا اور سانپ کی لڑائی
رسوائی ہو، حالات بگڑ جائیں	نماز پڑھو پڑھنا
باعث فکر ہے	سیچے اترنا
عزت و مرتبہ گھٹے، پریشانی آئے	نشہ کرنا
دین سے دوری، حرام راستے سے مل آئے	نشہ کرنا شراب کا
غلط کام کرے، باعث پریشانی	ناپاک ہونا

و

خوشی ملے، دکھ مصیبت سے بھٹکارہ ہو	وادی شاداب دیکھنا
رنج و الم آئے، تنگی حالات ہو	وادی خشک دیکھنا
عزت و مرتبہ بلند ہو، محتاجی ختم ہو	وادی میں نسر دیکھنا
ترقی ہو، عزت میں اضافہ ہو	واہظ کرنا
نیک کام کرے، دین سے رغبت ہو	واہظ سننا
ترقی حالات ہو	وزیر خود کو دیکھنا

دزیر کا گمراہ آنا	باعث خوشی
دزیر سے ملنا	عزت و قارندہ سے
دکیل ہونا	لوگوں میں عزت ہو
دکالت کرنا	قائدہ ہو، عزت ہو
دحشی دیکھنا	رنج و غم ہو، دشمنی ہو
دحشی کو ہلاک کرنا	غم و پریشانی سے چھٹکارہ ہو
دضو کرنا	باعث خوشی ہے حالات میں بھری ہو
دظیفہ پڑھنا	کام میں ترقی ہو، نیکی کی نشانی، شفا ہو
دولی اللہ دیکھنا	خوشحالی آئے، دین سے رغبت ہو،
دولی اللہ کو مرمان دیکھنا	نیک و پرہیزگار ہو
دوصل کرنا	دلی مراد آئے، حالات میں ترقی
دیرانی دیکھنا	دکھ تکلیف ہو، باعث ملال
دیران گمراہ دیکھنا	مصیبت آئے

۵

خوشی ملے، حالات بہتر ہوں

ہار پھولوں کا دیکھنا

ہار پھولوں کا پہننا	آرام و سکون ملے، عزیز سے خوشی ملے
ہار پھولوں کا بنانا	حسین لڑکی سے قرمت ہو، شادی ہو
ہار موتیوں کا دیکھنا	مال و دولت میں اضافہ، خوشی دیکھے
ہوا میں اڑنا	ترقی ہو، آرام و سکون ملے
ہاتھی سفید دیکھنا	مال ملے، عزت و مرتبہ بلند ہو
ہاتھی پر سواری کرنا	مرتبہ بلند ہو
ہد ہد پکڑنا	راحت و خوشی دیکھے، عزت و مرتبہ بڑھے
ہد ہد کا گوشت کھانا	نیک کام کرے، عمدہ ہو
ہل چلانا	رزق میں اضافہ ہو، کامیابی ہو
ہل خریدنا	محنت سے روزی ملے، ترقی کی نشانی
ہرن دیکھنا	نیک لڑکی پیدا ہو، عورت سے فائدہ ہو
ہرن پکڑنا	مال کثیر آئے، عورت سے قرمت بڑھے
ہرن کا شکار کرنا	حسین عورت کا گرویدہ ہو
ہرن کا گوشت کھانا	عزت و مرتبہ بڑھ جائے
ہاتھ سے آسمان چھونا	شہرت و عزت بڑھے، چوگنی ترقی ہو
ہاکی کھانا	ترقی حالت

ی

یکہ دیکھنا	باعث خوشی ہے
یکہ خریدنا	بہتر حالات کی نشانی ہے
یکہ پر سوار ہونا	بہتر حالات کی نشانی، کسی سے فائدہ ہو
یکہ سے گرنا	ر سوائی ہو، دکھ مصیبت آئے
یکہ چلانا	فائدے کا کام شروع کرے، محنت کرے
یا سمین کے پھول دیکھنا	باعث خوشی ہے
یا سمین کے پھول خریدنا	مال و دولت آئے، عورت سے فائدہ ہو
یا قوت سرخ دیکھنا	اچھی عورت پائے، خوشی نصیب ہو
یا قوت سبز دیکھنا	باوقا عورت سے قریب رہے
یا قوت خریدنا	کاروبار میں ترقی ہو
یا قوت عورت دیکھے	نیک فرزند پیدا ہو
یا قوت گم ہونا	دکھ مصیبت میں گم جائے
نخ پانی پینا	خوشی ملے، مرتبہ ملے، سکون قلب ہو
نخن پینا	روزی روزگار ہو

آزمودہ اور صحیح فال نامہ

بادِ صوبہ کی طرف منہ کر کے بیٹھ جائیں اور حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کی روح پاک پر فاتحہ خوانی کے بعد یہ آیت شریف آہستہ آہستہ پڑھتے رہیں سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ آگے ہر کر کے اور دل میں کام کی جائز طریقے سے نیت کر کے کسی ایک دائرے پر شہادت کی انگلی رکھیں اور اس کا مطلب جس جگہ کہ انگلی پڑے نیچے اس نمبر یا نشان پر جواب انشاء اللہ صحیح ملے گا۔ دائرہ یہ ہے۔

	۱		۲		۳		۴
	۵		۶		۷		۸
	۹		۱۰		۱۱		۱۲
	۱۳		۱۴		۱۵		۱۶

مزید کتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں : www.iqbalkalmati.blogspot.com

تفصیل دائرہ :

نمبر ۱ یہ فال اچھی ہے سفر کا ارادہ ہے تو پورب کی سمت جانے سے کام بہتر ہوگا اور اگر کسی نئے کام کے شروع کرنے کا ارادہ ہے تو اس کام کا انجام خیر ہوگا اور اگر ہمار

www.iqbalkalmati.blogspot.com

کے لیے فال دیکھی ہے تو اس کو سفر لوی خار ہے شفا پائے گا اگر اور مال کے لئے سوال ہے تو وقت پر ملے گا لیکن خرچ بہت جلد ہوگا۔

نمبر ۲ // فال اچھی ہے اگر سفر کے لئے سوال ہے تو سفر نہیں ہو گلاصلہ کے پیٹ میں درد ہے غذا کا نفاذ ہے علاج جاری رکھ دیر سے اچھا ہو گا اور مال کے لئے پوچھتا ہے تو بہت جلد مال ملے گا اور نفع بھی زیادہ ہو گا اور رزق بہت ملے گا اگر کسی غائب کے لئے سوال ہے تو وہ جلد حیرت واپس آئے گا۔

نمبر ۳ // سفر کا ارادہ ہے تو بے اختیار سفر کرنا پڑے گا اور سرگرداں جگہ بہ جگہ جائے گا۔ اگر مال کے لئے پوچھتا ہے تو مال نہیں ملے گا۔ مریض کی صحت کا سوال ہے تو مریض کو خار ہے اکثر دست آتے ہیں وقت لگے گا اور بہت سی بیماری جمیل کر اچھا ہو گا اس فال سے معلوم ہوتا ہے کہ حال بد ہے اور تو پریشان ہے اور مزید تھوڑے دنوں تک پریشان رہے گا۔ بے خواب نظر آتے ہیں اور اکثر تو بخس رہتا ہے۔

نمبر ۴ // یہ فال درمیانے درجے کی ہے نہ اچھی اور نہ ہی بدی سفر دیر سے ہوگا، دوست سے ملاقات ضرور ہوگی، کسی کے خط یا کسی خبر کے لئے چاہتا ہے تو بہت جلد تیرا یہ کام ہوگا اگر ماں باپ کے حال کے لئے فال دیکھی ہے تو ان کا حال اچھا ہے لکھنے پڑھنے کے کام سے وابستہ پڑے گا اس فال سے معلوم ہوتا ہے کہ تو حکیم نجومی یا شاعر ہے، مریض کو آسیب نے تکلیف پہنچائی ہے یا کسی نے جادو کیا ہے اور مریض کو درد کا بھی حادثہ ہے۔ اور تیرا خود کا حال اچھا ہے۔

نمبر ۵ // تیری فال اچھی ہے اگر سوال معشوق سے ملنے کا ہے تو معشوق ملے گا اگر سفر کا ارادہ رکھتا ہے تو سفر بہتر رہے گا شمال اور مغرب کی طرف جاوے کسی سے فائدہ یا

تھہ چاہتا ہے تو وہ تیرے پاس آئے گا اگر عورت کے حمل سے متعلق سوال ہے تو حمل ہے۔ تجھے شعر و شاعری سے لگا ہے اور اچھے خواب نظر آتے ہیں دل کسی کے چاہت میں بیقرار ہے۔ مریض کو خفقان اور بادی کا مرض لاحق ہے اچھا ہو جائے گا۔

نمبر ۶ // اس قال سے پتہ چلتا ہے کہ جو کام تو کرتا ہے وہ الٹ ہو جاتا ہے اگر سفر کا ارادہ ہے تو سفر ہو گا مگر ناکام ہو کر واپس آئے گا۔ صدار کو پیٹ کی صداری ہے اس پر کسی نے جادو کیا ہے۔ حاملہ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ عورت کو خون حیض بد ہے یا پیٹ میں سختی ہے اور چور کے متعلق تو چور مرد ہے غلام بد صورت، کالا منہ اور چمک کے نشان چہرے پر ہیں لڑکے کی صداری کے متعلق تو یہ کہ لڑکے کو چمک نکلے گی حیران از کھل جائے گا اکثر ڈرنے والے خواب دیکھتا ہے تو اسے سرد ہے تیرا دل ٹھنکین رہتا ہے۔

نمبر ۷ // سفر پریشانی اور دشواری سے ہو گا اور بے مقصد فائدہ نہیں ہو گا، تو مقروض ہے۔ قرضداروں کا تقاضا یہ ہے کہ کوئی اچھا اور بہتر دوست دور ہو گیا ہے۔ مال جس عورت نے چرایا ہے وہ کالی ہے مریض کا مرض اچھا نہیں ہو گا اس پر کسی نے جادو کیا ہے پیٹ میں زیادہ تکلیف محسوس کرتا ہے صدقہ خیرات کرنے سے مریض بوی پریشانیوں کے بعد اچھا بھی جائے، تجھے بڑے خواب نظر آتے ہیں تجھے دشمن کا خوف زیادہ ہے عورت کے لئے اگر ارادہ ہے تو عورت طے کی روزگار تجھے طے گا اور اس قال کا تو صدقہ ضرور دے سیاہ رنگ کی چیز مثلاً جہانور کپڑا اور تیل وغیرہ

نمبر ۸ // مال جمع کرنے کا ارادہ ہے تو مال جمع ہو گا، مال کی طرف سے تیرے دل میں ڈر رہتا ہے امید ہے کہ مال تجھے عورت سے میسر ہو گا، تیرا لٹ سے بھی تجھ کو مال مل سکتا ہے۔ اگر سفر کا ارادہ ہے تو سفر نہیں کر سکے گا واسطے مریض کے پوچھتا ہے تو

دستوں کا مرض ہے و قفاؤ قفا خون بھی آتا ہے ہو سکتا ہے کہ پھوڑا بھی ہو کسی عضو میں درد بھی رہتا ہے۔ اکثر پریشان خواب دیکھتا ہے، مریض کو مرنے کا ڈر ہے، سرخ رنگ کی چیزوں کا صدقہ دے، گوشت چیلوں کو کھلا دے تیرے لئے ابھی کئی ہفتے سخت ہیں۔

نمبر ۹ // یہ فال اچھی ہے، سوال علم کے لئے ہے تو علم حاصل ہو گا شادی کا ارادہ ہے تو شادی جلد ہو۔ سوال سفر ہے تو سفر ہو گا اور شمال کی طرف جانا مفید ہے، مریض کے لئے سوال ہے تو حال بد ہے، اچھانہ ہو گا، مرض اس کو بلغمی ہے عورت کے حمل کا سوال ہے تو عورت کو حمل نہیں کسی خرابی سے حیض بد ہے، سفید چیزیں خیرات کرنا تاکہ فائدہ ہو۔

نمبر ۱۰ // فال مبارک ہو یہ فال اچھی ہے مشرق کی طرف سفر کر فائدہ ہو گا، کسی بڑے آدمی سے ملنا چاہتا ہے تو مل سب کام ظہیر و خوبی انجام پذیر ہوں گے مریض کا حال اچھا ہے گھبرانے کی ضرورت نہیں صرلوی جاری ہے شفا جلد متوقع ہے۔ پڑھنے لکھنے سے فائدہ اور نفع ہو گا روزگار کے لئے فکر نہ کر روزگار ملے گا اور رزق میں اضافہ ہو گا سارے مسئلے ٹھیک ہو جائیں گے۔

نمبر ۱۱ // فال تیرے حق میں ہے سفر کا ارادہ ملتوی کر دے کیوں کہ سفر نہیں ہو گا اور اگر کرے گا تو نقصان اٹھائے گا کسی سے ملاقات کا ارادہ ہے تو ملاقات ہو گی بھار کے لئے یہ ہے کہ بھار کا پیٹ پھولا ہوا ہے درد کے ساتھ بلغمی بھاری ہے علاج کر صدقہ دے دیکھئے آرام ہو گا۔ عورت کو حمل ہے، جو امیدیں تیرے دل میں ہیں اس کے لئے خدا سے دعا کر خدا حاجت روا کرنے والا ہے مال جمع کرنے کا ارادہ ہے تو جمع ہو گا اور امیدیں بھی پوری ہو گی صدقہ خیرات کر اور خدا سے معافی مانگ حالات ٹھیک ہو گئے۔

نمبر ۱۲ / یہ فال تیرے مخالف ہے پورب کی طرف بے اختیاری سفر ہو گا لیکن اس سے کوئی فائدہ نہیں ہو گا قیدی کے لئے اگر پوچھتا ہے تو وہ نہیں چھوٹے گا دشمن تیرے بہت ہو گئے ہیں اور وہ تیری گھات میں ہیں دوستوں سے دور رہو ورنہ رنج و غم اٹھائے گا مریض کو تپ دق اور دستوں کی بھاری لگی ہے اچھا نہیں ہو گا اور اگر اچھا ہو جائے گا تو پھر دوبارہ مرض بڑھ جائے گا، عورت سے قریب بڑھے گی بڑے خواب پریشان کرتے ہیں صحیح طریقے سے غسل کیا کر تنگی رزق سے واسطہ ہے توبہ کر اور اللہ کی طرف مائل ہو اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کو معافی مانگ، بھنے اور منگل کو کالی چیزوں کا صدقہ دے کئی نئے تیرے لئے سخت ہیں، اللہ اپنا فضل کرے۔

نمبر ۱۳ / یہ فال توسط درجہ رکھتی ہے اگر سفر کا ارادہ ہے تو سفر میں نفع ہو گا مریض کو دستوں کا مرض ہے اور پھوڑا بھی نکلا ہوا ہے جراح یا ڈاکٹر سے چیرا لگوالے۔ کام کے لئے بہت کوشش کرتا ہے مگر کابل سے پورا نہیں ہوتا۔ دل میں گھبراہٹ بہت ہے اس کے علاوہ تیرے دل میں کوئی بس گیا ہے مزاج میں غصہ ہے طبیعت لڑائی اور قتل پر مائل ہے اور ہاں بھاری میں خون کا فساد بھی ہے بلغم کی شکایت ہے سہ گری یا اسی طرح کا کام شروع کر اسی میں روزگار ملے گا صدقہ سرخ چیزوں کا کر، اچھے حالات کے سبب مال بھی جمع ہوگا۔

نمبر ۱۴ / مبارک ہو فال اچھی ہے تیری اسی میں بھری ہے سفر تیرے فائدہ مند ہے مریض کا سوال ہے تو اسے پیٹ کا عارضہ ہے پیٹ میں سختی ہے دیر میں اچھا ہو گا عورت کو حمل ہے اور لڑکی پیدا ہوگی، محبت میں کامیابی ہوگی، دوسروں کا تعاون حاصل ہوگا، روزگار میں ترقی ہوگی، مال جمع ہوگا، اگر کسی کی خبر لینا چاہتا ہے تو بہت جلد

اسکی خبر ملے گی، تیری سب امیدیں پوری ہو گئی نیک کام کرتا رہ لوں سفر اللہ کے نام پر

خیرات کسب
نمبر ۱۵ / قال اچھی ہے سفر حاصل ہو گا اور فائدہ ہو گا تو جس سے ملنا چاہتا ہے
جلد ملاقات ہو گی اور اگر کسی کے خط یا خبر کے لئے انتظار میں ہے تو اس کی جلد خبر ملے
گی مریض کے لئے پوچھتا ہے تو مریض کو آسیب ہے یا کسی نے ہاؤ دکھایا ہے بھاگ دوڑ اور
دشواری سے اچھا ہو گا صدقہ دے بدھ کے دن اور زندہ چھلیاں لے کر دریا میں چھوڑ اور
سات لائج محتاجوں کو دے۔ علم میں اضافہ ہو گا روزگار کے لئے حالات سازگار ہو رہے
ہیں سب کام طیر انجام پذیر ہو گئے پھر دوسرے رکھ۔

نمبر ۱۶ / تیری قال تیرے حق میں ہے شمال کی طرف سفر کرنے سے فائدہ
حاصل ہو گا مریض کے لئے سوال ہے تو مریض کو سردی، جلند اور بلیغی کا مرض
لاحق ہے مرض ٹھیک ہو جائے گا، تیرے دل میں کسی نے گھر کر لیا ہے وہ تجھے ملے گا
مگر دیر سے گھبرا نہیں، کسی کے پاس اپنے کام کے لئے جانا چاہتا ہے تو جا کام ہو جائے
گا، تیرے سب کام اللہ کے ہر دوسرے حق میں ہو گئے، سفید چیزیں خیرات کر مال
کے واسطے پوچھتا ہے تو مال جمع ہو گا مگر کوشش سے اور پھر جلد ہی خرچ بھی ہو جائے گا۔
غیب صرف اللہ ہی جانتا ہے اللہ سے مدد مانگ اور اپنے دل کو اسی کی طرف لگائے رکھ
اللہ سارے کام ٹھیک کر دے گا۔

مزید کتب پڑھنے کے لئے آج ہی وزٹ کریں: www.iqbalkalmati.blogspot.com